

سیکولر ازم کی تعریف اور اس دور میں ان نظریات کے حامل افراد کے فتنے اور فتنوں سے مقابلہ کرنے کے اقدامات

مقالہ: تربیتی نشست دارالافتاء اہل سنت 08 مئی 2018 (ابو احمد محمد انس رضا قادری)

صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”يَكُونُ دُعَاؤُ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قَذَفُوا فِيهَا“ ترجمہ: کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو (جہنم کی طرف) بلائیں گے۔ جو شخص ان کی بات مانے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ”قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا“ ترجمہ: میں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! ہمیں ان کی علامات بتا دیجئے۔ ”قَالَ: «هُمْ قَوْمٌ مِنْ جُلْدَتَيْنَا يَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنِّتِنَا»“ ترجمہ: آپ نے فرمایا: وہ ہم ہی ہیں سے کچھ افراد ہوں گے اور ہماری زبانوں ہی میں بات کریں گے۔ ”قُلْتُ: فَبَاتَا مَرْنِي إِنْ أَدْرَكْنِي ذَلِكَ“ ترجمہ: میں نے کہا: اگر مجھے (ان کا) یہ زمانہ ملے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ ”قَالَ: فَالْوَمَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَامَهُمْ“ ترجمہ: آپ نے فرمایا: مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ پیوستہ رہنا۔ ”قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، وَلَا إِمَامٌ“ ترجمہ: اگر جماعت نہ ہو اور نہ کوئی امام ہو تو کیا کروں؟ ”قَالَ: فَاعْتَوِلْ تِلْكَ الْفِرَاقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَصَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يَذْرَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ كَذَلِكَ“ ترجمہ: آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان سب فرقوں سے الگ رہنا اگرچہ تجھے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے حتیٰ کہ تجھے اس حال میں موت آجائے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب العزلة، جلد 2، صفحہ 1317، حدیث 3979، دہر احیاء الکتب العربیة، الحلبي)

یہ حدیث عصر حاضر کے فتنوں کی کافی حد تک عکاسی کرتی ہے کہ ایک طرف گمراہ فرقے ہیں جو قرآن و حدیث کے نام پر مسلمانوں کے عقائد خراب کر کے ان کو اہل سنت و جماعت سے الگ کر کے جہنمی فرقوں میں شامل کر رہے ہیں اور دوسری طرف سیکولر لوگ ہیں جو مذہب کو مساجد تک محدود کر کے مسلمانوں کو عیش پرستی اور حرام خوری کی طرف لگا رہے ہیں اور شرعی احکام کی نہ صرف خلاف ورزی کرتے بلکہ پردہ و شرعی سزاؤں کو قدیم خیالی ثابت کرتے ہیں۔ سیکولر ازم، لبرل ازم اور دہریت کی پہلی سیڑھی ہے جس کی ابتدا مذہب سے الگ ہونا اور اس کی انتہا دین کا منکر ہو کر جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ دہریت، لبرل ازم اور سیکولر ازم کی تعریف و تاریخ میں فرق ضرور ہے لیکن موجودہ دور میں یہ تمام نام ان لوگوں کے لیے بولے جاتے ہیں جو خود کو مذہب سے آزاد سمجھتے ہیں۔ ذیل میں ان کی تعریفات اور تاریخ بیان کی جاتی ہے۔

الحاد کی تعریف: عربی زبان میں الحاد کا لغوی مطلب، انحراف یعنی درست راہ سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد اسلامی مضامین میں استعمال کی جانے والی ایک اصطلاح ہے جو اپنا پس منظر قرآن سے اخذ کرتی ہے۔ قرآن کی سورت الاعراف کی آیت 180 میں ”يُدْحِذُونَ“ (یعنی لحد کرنا یا انحراف کرنے) کا لفظ آتا ہے۔ یہ کلمہ، لحد سے ماخوذ ہے۔ لحد کا لفظ عام طور پر اردو میں بھی قبر کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فی الحقیقت لحد سے مراد اس طاق یا دراز یا درز کی ہوتی ہے کہ جو قبر میں ایک جانب ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور جس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ طاق یا درز درمیان سے ہٹی ہوئی ہو کر تھی ہے یا

یوں کہہ سکتے ہیں کہ قبر کے درمیان سے منحرف ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اس کو لحد کہا جاتا ہے اور اسی لحد سے الحاد بھی بنا ہے۔ لفظ الحاد کو انگریزی میں بعض اوقات (atheism) بھی لکھ دیا جاتا ہے جو اپنے معنوں میں خاصاً مختلف مفہوم کا حامل ہے جس کی درست اردو عقلاً و منطقاً، لامذہبیت یا لادینی آتی ہے۔

لبرل ازم: لفظ لبرل، قدیم روم کی لاطینی زبان کے لفظ لائبر (liber) اور پھر لائبرالس (liberalis) سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے آزاد، جو غلام نہ ہو۔ یعنی لبرل وہ شخص ہے جو خود کو دین سے آزاد سمجھتا ہو۔

سیکولر ازم کی تعریف

یہ لاطینی زبان کے لفظ Seculeer یا Secler کی بدلی ہوئی انگریزی شکل ہے۔ اس کے کئی مطالب اور اشکال ہیں۔ معروف ترین مطلب "The World" یعنی دنیا ہے جو چرچ کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق خدا کی ذات و وقت کی قید اور حدود سے آزاد اور مارا ورا ہے۔ دہریت میں اللہ عزوجل کا انکار کیا جاتا ہے اس کی بہ نسبت سیکولرزم میں اللہ عزوجل کو تو مانا جاتا ہے لیکن آزادی کو دین پر ترجیح دی جاتی ہے کہ ہر فرد جو کرنا چاہے، کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے اسے مکمل آزادی حاصل ہے، یونہی دین کو سیاست سے الگ رکھنا ان کا نظریہ ہے۔

انٹرنیٹ کی مشہور ویب سائٹ ویکیپیڈیا میں سیکولر ازم کی تعریف یوں کی گئی ہے: ”سیکولر ازم سے مراد دنیاوی امور سے مذہب اور مذہبی تصورات کا اخراج یا بے دخلی ہے۔ یہ نظریہ کہ مذہب اور مذہبی خیالات و تصورات کو ارداتاً دنیاوی امور سے حذف کر دیا جائے۔ سیکولر ازم جدید دور اور روایتی مذہبی اقدار سے دور جانے کی طرف ایک تحریک ہے۔ سیکولر ازم کو اردو میں عموماً لادینیت سے تعبیر کیا جاتا ہے سیکولر ازم کے حامیوں کے نزدیک یہ لادینیت کے مترادف نہیں، بلکہ اس کا مطلب مذہب اور ریاست کے معاملات کو الگ کر دیا جائے۔ سب سے پہلے اصطلاح سیکولر ازم برطانوی لکھاری جارج جیکوب ہولیاک نے 1851ء میں استعمال کی تھی، یہ اصطلاح دراصل چرچ اور ریاست کو الگ کرنے کے لیے استعمال کی گئی تھی گویا سیکولر ازم دراصل سیاست اور مذہب کے مابین تفریق کا نام ہے۔“

سیکولر ازم کی تاریخ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مغربی اور مشرقی یورپ پر بت پرست (مشرک) رومن بادشاہوں کی حکمرانی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف اٹھائے جانے سے قبل دنیا میں 30 یا 33 برس رہے۔ وہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے رسول تھے تاکہ ان کو تورات کی گمشدہ تعلیمات سے آسرنو آشنا کریں۔ ان کی اصل تعلیمات اس وقت تقریباً ناپید ہیں۔ موجودہ عیسائیت اور اس کے عقائد سینٹ پال کا دین ہے۔ یہ شخص بنیادی طور پر کٹر یہودی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھالیے جانے کے بعد یہ شخص عیسائی ہو گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے لوگوں کے درمیان (اپنے خوابوں اور مکاشفات کے ذریعے) اس عقیدے کو عام کیا کہ یسوع مسیح خدا کے ہاں اس کے نائب کی حیثیت سے موجود ہیں اور قیامت کے روز لوگوں کے درمیان فیصلے وہی کریں گے اور یہ کہ اب نجات اس شخص کو ملے گی جو یسوع مسیح کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ یہی وہ شخص

ہے جس نے پہلی بار یہ تعلیم بنی اسرائیل کے علاوہ دوسری اقوام کو دینے کی بھی نصیحت کی۔ عیسائی مبلغین کی پہلی کانفرنس 50ء میں منعقد ہوئی (جس میں سینٹ پال نے بھی شرکت کی) جس میں تورات کے کئی احکامات کی پابندی سے غیر اسرائیلیوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا، البتہ انھیں زنا، بت پرستی اور خون آمیز گوشت کھانے سے منع کیا گیا۔ اس وقت تک حضرت عیسیٰ کے خدا کے بیٹے ہونے کا عقیدہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ عیسائیت کے عقائد کی تعلیم اور اشاعت رومن دور میں ممنوع تھی اور مبلغین پر بہت تشدد کیا جاتا تھا۔ تشدد کا یہ سلسلہ اس وقت رکا جب رومن شہنشاہ کانستانتائن نے تقریباً 312ء میں عیسائیت قبول کر لی۔ لیکن یہ محض عقیدے کی قبولیت تھی ورنہ کاروبارِ مملکت پر انے رومن طریقے ہی پر چلتا رہا اور اس معاملے میں کسی عیسائی عالم کا کوئی اعتراض ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ عیسائیت کے سرکاری مذہب بن جانے کے باوجود مملکت کے سیکولر ہونے کی یہ پہلی مثال تھی۔ اس حکومتی سیکولرزم کی وجہ یہ تھی کہ سینٹ پال کی تعلیم کے مطابق عیسائی عقیدہ اختیار کرنے کے بعد دنیاوی معاملات سے خدا کا تعلق ختم ہو کر رہ گیا تھا۔

سیکولر ازم (Secularism) کے تصور کا بانی ایک عیسائی مفکر سینٹ آگسٹین (Saint Augustene) ہے۔ سینٹ آگسٹین نے جو تھی صدی عیسوی میں ایک کتاب ”سٹی آف گاڈ (City of God) لاطینی زبان میں لکھی۔ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں عملاً دو سلطنتیں، یعنی دو نظام اقتدار قائم ہیں ایک نظام ہے، ”سٹی آف گاڈ” جس میں خدا کی حکمرانی ہے۔ اس نظام کو چرچ مرتب اور نافذ کرتا ہے، اور یہ نظام خدا اور انسان کے رشتہ کو قائم رکھنے اور مضبوط بنانے کا ذمہ دار ہے۔ یہ نظام عیسائیت کی تشریح اور تنفیذ کرتا ہے، اس نظام کا حاکم مطلق ”پوپ“ ہے، پوپ عیسائیت کی جو تشریح چاہے کرے کیوں کہ روح القدس (Holy ghost) ہر پوپ میں حلول کرتی ہے۔ ہر عیسائی پوپ کا بندہ ہے۔

دوسرا نظام ”سٹی آف مین (City of man) ہے۔ اس نظام کا مقصد وجود انسانوں کے آپس کے تعلقات کی ترتیب اور تدوین ہے اور ان کے دنیوی اغراض و مقاصد کا فروغ ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے اقتدار رومن شہنشاہ Roman emperor کو پوپ سونپ دیتا ہے۔ اور رومن شہنشاہ رومن قانون (Roman Law) جس کا ماخذ روم کی روایات ہیں۔ رومن شہنشاہ اسی رومن لاء کے ذریعے ”سٹی آف مین“ پر حکومت کرتا ہے۔ City of man میں رومن شہنشاہ انہی معنوں میں حاکم مطلق ہوتا ہے جن معنوں میں پوپ City of God میں حاکم مطلق ہوتا ہے۔ رومن شہنشاہ کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ رومن لاء کی جو تشریح چاہے کرے۔

تقریباً 476ء میں جرمن گاتھ حکمرانوں کے ہاتھوں مغربی یورپ میں رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ گاتھ چونکہ قبائلی طرز زندگی کے عادی تھا اس لیے اس نے کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں کی جس کے نتیجے میں مغربی یورپ میں ہر طرف طوائف الملوک پھیل گئی۔ ہر جگہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں اور جاگیر داریوں نے جنم لیا اور باہم جنگ و جدل شروع ہو گئی۔ یہ سلسلہ تقریباً ایک ہزار سال تک جاری رہا۔ اس عرصے کو یورپ کا تاریک دور یا ازمنہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی دور میں عیسائیت میں پوپ کے منصب کا آغاز ہوا اور اسے مذہبی معاملات میں مکمل دسترس حاصل ہو گئی، اس کا کہا خدا کا کہا سمجھا جانے لگا۔ یہی دور تھا جب مصر کے صحرا میں رہنے والے کچھ عیسائی مبلغین نے رہبانیت اختیار کی۔ 500ء میں سینٹ بینیکٹ، روم میں لوگوں کی اخلاقی بے راہ روی سے اس قدر تنگ آیا کہ اس نے اپنی تعلیم کو خیر باد کہا اور ایک غار میں رہائش اختیار کی تاکہ اپنے نفس کو پاک رکھ سکے۔ اس

مقصد کے لیے اس نے اور لوگوں کو بھی دعوت دی۔ جب ایک اچھی خاصی تعداد شاگردوں کی میسر آگئی تو 529ء میں اس نے باقاعدہ ایک راہب خانے کی بنیاد رکھی اور راہبوں کے لیے ضابطے تحریر کیے جو آج بھی راہب خانوں میں نافذ العمل ہیں۔ ان ضوابط میں راہبوں کے لیے شادی کی ممانعت، مہمانوں سے آزادانہ ملنے پر پابندی، مخصوص لباس پہننے کی پابندی، سونے جاگنے، سفر کرنے اور ملنے ملانے، کھانے پینے کے آداب اور طریقے شامل تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ رہبانیت اختیار کرنے والوں نے پاکی نفس کے لیے غلو اور اس سے بڑھ کر انسانی جسم و جان پر بے جا پابندیاں اور تشدد شروع کیا جو کہ انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ اسی کی تعلیم یہ لوگ عوام کو دیا کرتے تھے۔

رفتہ رفتہ یہ راہب لوگوں اور خدا کے درمیان واسطہ بن گئے اور مذہبی معاملات میں انہیں ایک ناقابلِ چیلنج اختیار حاصل ہو گیا۔ ایک طرف ان راہبوں کے ذنیادی امور سے الگ ہو جانے اور خود کو راہب خانوں تک محدود کرنے کے باعث حکومتوں کے لیے سیکولر ہونے کو ایک طرح کا کھلا میدان اور جواز فراہم ہوا، تو دوسری طرف راہبوں، بشپوں اور پوپ کی اس مطلق العنانی نے اختیار کے غلط استعمال کو جنم دیا اور شہنشاہ کانسٹنٹائن کے عہد میں منعقدہ کونسل آف نیقیہ میں طے کردہ عیسائی عقیدے سے اختلاف کرنے والوں کے خلاف سخت تشدد دانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ عیسائی دنیا میں سینکڑوں برس تک اس صورت حال کے جاری رہنے سے انسانی فطرت میں اس کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی۔ پوپ چونکہ اٹلی کے شہر روم میں موجود تھا، اس لیے تحریک احیائے علوم کا آغاز بھی (چودھویں صدی عیسوی میں) روم ہی سے ہوا۔ اس تحریک کے اثرات سے لوگوں نے راہبوں اور پادریوں کی سوچ و فکر سے آزاد ہو کر سوچنا شروع کر دیا۔ اس زمانے کے فلسفیوں اور دانشوروں نے دلائل کے ذریعے عیسائیت کے مذہبی عقائد کا غیر عقلی اور غیر فطری و غیر منطقی ہونا لوگوں کے سامنے ثابت کرنا شروع کیا۔

سولہویں صدی عیسوی میں بائبل میں دی گئی کائنات اور زندگی سے متعلق بعض معلومات کے سائنسی طور پر غلط ثابت ہونے سے مذہبی عقیدے کی لوگوں پر گرفت بالکل کمزور پڑ گئی۔ یہ بغاوت عیسائیت کے ایسے قوانین اور ضوابط کے خلاف نہیں تھی جو حکومتی معاملات، طرز معاشرت، معیشت وغیرہ سے متعلق ہوتے کہ ایسے قوانین تو عیسائیت میں تھے ہی نہیں بلکہ عیسائیت تو محض ایک عقیدے کا نام تھی، جسے نیقیہ کی کونسل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور توریت کے احکامات کو نظر انداز کر کے سینٹ پال کے خوابوں اور روحانی مکاشفات کے نتیجے میں اختیار کیا تھا اور انسان کی نجات کے لیے لازمی قرار دیا تھا۔ یہ عقیدہ چونکہ یونانی دیومالا اور یونانی فلسفے کے زیر اثر پروان چڑھا تھا اللہ عزوجل کی طرف سے نہ تھا، اس لیے جدید سائنسی انکشافات و اکتشافات کی ذرا سی ٹھوکر بھی نہ سہہ سکا۔

انسانیت پر اثرات: یورپ کی عوام چونکہ پوپ کے غیر فطری مذہبی رجحانات سے تنگ آچکی تھی اور سارا یورپ عیسائی علما کے صدیوں تک جاری رہنے والے فرقہ وارانہ جھگڑوں کے نتائج کو بھی بھگت چکا تھا، اس لیے مذہبی عقیدے سے بغاوت یورپ کے اجتماعی ضمیر میں جلد جذب ہو گئی۔ تحریک احیائے علوم کے دوران یورپ میں جب عیسائیت کی تعلیمات سے بے زاری پیدا ہوئی اور خدا کی انسانی زندگی میں دخل (جو کہ اصل میں عیسائی پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کی خدا کی طرف سے انسانی زندگی میں مداخلت کی غیر ضروری، غیر منطقی، من مانی اور تشدد دانہ توجیہ تھی) کے خلاف

بغاوت پیدا ہوئی تو کہا جانے لگا کہ چونکہ خدا وقت کی حدود سے ماورا ہے اور انسان وقت کی حدود سے مقید ہے، لہذا انسانی زندگی کو سیکولر، یعنی خدا سے جدا (محدود) ہونا چاہیے۔ اس لفظ کو باقاعدہ اصطلاح کی شکل میں 1846ء میں متعارف کروانے والا پہلا شخص برطانوی مصنف جارج جیکب ہولیووک (1817ء-1906ء) تھا۔

جیکب ہولیووک برطانیہ کے شہر برمنگھم کے ”میکلس انسٹی ٹیوٹ“ میں پڑھاتا تھا۔ مشہور خیالی اشتراکیت پسند رابرٹ اووین کا ہم نوا ہونے کے جرم میں اسے ادارے سے نکال دیا گیا۔ اس زمانے میں لندن سے روشن خیالوں کا ایک رسالہ ”ندائے عقل“ شائع ہوتا تھا، جیکب ہولیووک بھی اسی رسالے سے منسلک ہوا۔ 1841ء میں اس رسالے کے ایڈیٹر کو مسیحی اصولوں سے انحراف کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا، تو ہولیووک اس رسالے کا مدیر مقرر ہوا۔ ابھی چھ ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے (ہولیووک) کو بھی منطقی دلائل پر مبنی ایک تقریر کرنے کی پاداش میں چھ ماہ قید کی سزا دی گئی، قید سے رہائی کے بعد ہولیووک ترقی پسند اور سائنسی خیالات کی ترویج کے لیے تقریریں کرتا اور رسالے لکھتا رہا۔ 1851ء میں اس نے لندن میں ”سنٹرل سیکولر سوسائٹی“ کے نام سے ایک علمی و ادبی انجمن قائم کی ہولیووک کا موقف تھا: 1- انسان کی سچی رہنما سائنس ہے۔ 2- اخلاق مذہب سے جدا ایک قدیم حقیقت ہے۔ 3- علم و ادراک کی واحد کسوٹی اور سند عقل ہے۔ 4- ہر شخص کو فکر اور تقریر کی آزادی ملنی چاہیے۔ 5- ہم سب کو دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔

تحریک احیائے علوم کے دور میں مذہب بے زار فلسفیوں، دانش وروں اور فلسفی سائنس دانوں نے بڑے بڑے تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں قائم کیں جن کے ذریعے اپنے خیالات کو عام کیا۔ اسی دور میں یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی۔ یورپ میں مذہب بیزاری خدا کے انکار اور انسان کو بندر کی اولاد سمجھنے تک جا پہنچی۔ اب یورپ میں زندگی کی معراج یہ ٹھہری کہ انسان اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ساری جدوجہد کرے۔ تمام انسان بھی عام حیوانوں کی طرح حیوان ہی ہیں، لہذا اس دنیا میں بقا محض طاقتور کو نصیب ہوگی۔ (چارلس ڈارون اور ہربرٹ سپنسر اس فکر کے علمبردار تھے۔)

اس فلسفے کے عام ہو جانے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہتھیار ہاتھ آ جانے کے بعد یورپی اقوام کمزور اقوام پر ٹوٹ پڑیں۔ مفتوحہ ممالک پر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے یورپی اقوام نے وہاں اپنی جدید سیکولر اور لبرل فکر کی ترویج کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں تعمیر کیں۔ مفتوحہ اقوام کے تعلیمی ادارے، ان کی زبانوں میں تعلیم اور عدالتوں کا نظام موقوف کیا اور معاشرت اور معیشت میں اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو رائج کیا جسے مفتوح اور مرعوب و شکست خوردہ لوگوں نے قبول کیا۔ فاتح اقوام نے رزق کے ذرائع اپنے قائم کردہ جدید سیکولر تعلیمی اداروں کی اسناد کے ساتھ منسلک کر دیے۔ مفتوحہ اقوام کے نوجوان یورپ میں بھی تعلیم حاصل کرنے لگے (طرفہ تماشہ یہ ہے کہ یورپی اقوام نے اپنے مفتوحہ ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کا اہتمام نہیں کیا بلکہ ان تمام ممالک کو آزادی حاصل ہونے کے بعد خود اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی)۔ اس طرح یورپ کی خدا اور مذہب سے بغاوت پر مبنی فکر، ادب، عمرانیات، فلسفہ، آرٹ اور انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کی تعلیم کے ذریعے تمام دنیا میں پھیل گئی۔

مغرب میں دہریت کیسے عام ہوئی؟ اسلام کی پوری تاریخ کے اندر، اسلام کو ان دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جو یورپ کو انکے غلط عقیدے کی وجہ سے کرنا پڑیں۔ بہت اہم مشکلات میں سے ایک مذہب اور سائنس کے درمیان خوفناک اختلافات تھے۔ مذہب اس بے رحمی کیساتھ سائنس سے جا ٹکرایا کہ کلیسا نے بہت سے سائنسدانوں کو زندہ جلادیا اس بنا پر کہ وہ انکی کتاب کے خلاف چل رہے تھے۔ اہل کلیسا کے ان لرزہ خیز مظالم اور چہرہ دستیوں نے پورے یورپ میں ایک ہلچل مچادی۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جن کے مفادات کلیسا سے وابستہ تھے، سب کے سب کلیسا سے نفرت کرنے لگے اور نفرت و عداوت کے اس جوش میں بد قسمتی سے انھوں نے مذہب کے پورے نظام کو تباہ کر دینے کا تہیہ کر لیا چنانچہ غصے میں آکر وہ ہدایت الہی کے باغی ہو گئے۔

گویا اہل کلیسا کی حماقت کی وجہ سے پندرہویں اور سولہویں صدیوں میں ایک ایسی جذباتی کش مکش شروع ہوئی، جس میں چڑ اور ضد سے بہک کر تبدیلی کے جذبات خالص الحاد کے راستے پر پڑ گئے۔ اور اس طویل کش مکش کے بعد مغرب میں تہذیب الحاد کا دور دورہ شروع ہوا۔

اس تحریک کے علمبرداروں نے کائنات کی بدیہی شہادتوں کے باوجود زندگی کی ساری عمارت کو اس بنیاد پر کھڑا کیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، وہ صرف مادہ ہے۔ نمو، حرکت، ارادی، احساس، شعور اور فکر سب اسی ترقی یافتہ مادہ کے خواص ہیں۔ تہذیب جدید کے معماروں نے اسی فلسفے کو سامنے رکھ کر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی عمارت تعمیر کی۔ ہر تحریک جس کا آغاز اس مفروضے پر کیا گیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی الہامی ہدایت نہیں، کوئی واجب الاطاعت نظام اخلاق نہیں، کوئی حشر نہیں اور کوئی جواب دہی نہیں، ترقی پسند تحریک کہلائی۔ اس طرح یورپ کا رخ ایک مکمل اور وسیع مادیت کی طرف پھر گیا۔ خیالات، نقطہ نظر، نفسیات و ذہنیت، اخلاق و اجتماع، علم و ادب، حکومت و سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں الحاد اس پر پوری طرح غالب آ گیا۔ اگرچہ یہ سب کچھ تدریجی طور پر ہوا اور ابتدا میں تو اس کی رفتار بہت سست تھی لیکن آہستہ آہستہ اس طوفان نے سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

خلاصہ بحث: سیکولر ازم فی زمانہ یورپ کے علاوہ اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان میں کس طرح اور کن ذرائع سے پھیل رہی ہے اس پر آگے ہم کلام کریں گے، فی الحال سیکولر ازم کی اس مختصر سی تاریخ سے یہ بات سامنے آئی کہ عیسائیت میں دہریت اور سیکولر ازم کے عام ہونے کی ایک وجہ عیسائی پادریوں کا لوگوں کو اپنا مذہبی غلام بنا لینا بنی۔ عیسائیت ایک نامکمل اور تحریف شدہ دین تھا جسے پادریوں نے اپنے طور پر بنا کر لوگوں پر حکومت کرنا شروع کر دی۔ پادریوں کا ایسے قوانین عوام کو بتانا جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ خدا اور عوام کے درمیان پادریوں کا بہت عمل دخل ہے جیسے کسی عیسائی نے اگر توبہ کرنی ہو تو وہ ڈائریکٹ اللہ عزوجل سے توبہ نہیں کرتا بلکہ گرجا جا کر پادری کے آگے اپنے گناہ کا اظہار کرتا اور توبہ کرتا ہے۔ یونہی ہندوں میں برہمنوں کے ظلم و ستم سے دیگر قومیں بیزار ہو کر دہریت اور دیگر مذاہب میں چلی گئیں۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو اللہ عزوجل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچا ہے۔

اب ہم اسلام کا جائزہ لیں تو قرآن و حدیث کا علمی و عقلی اور سائنسی رد تو کفار بھی کرنے سے عاجز رہے، اس دین کے حفاظت کے لیے اللہ عزوجل نے ایسے دینداروں کو پیدا کیا جنہوں نے چودہ سو سال سے لے کر اب تک صحیح دین لوگوں تک پہنچایا۔ اسلام میں دینی شخصیات کا اتنا ہی عمل دخل ہے جتنا اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ علماء کرام نے احکام شرع خود سے نہیں گڑھ لیے بلکہ قرآن و حدیث ہی کو لوگوں کے آگے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی کسی مولوی نے دین کو بگاڑنا چاہا دیگر علمائے حق نے اس کا پردہ فاش کر دیا اور وہ دنیا ہی میں ذلیل ہو گیا۔

اس کے باوجود سیکولر ازم عام ہونے کی وجہ دیندار طبقہ کا سیاست سے دور ہو کر عیاش حکمرانوں کے ہاتھ اقتدار سونپ دینا، گمراہ و دہشت گرد فرقوں کا سیاست و اعلیٰ اقتدار پر قابض ہو کر فتنہ و فساد بھرا کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنا، اہل سنت کا فروعی مسائل میں شدت اختیار کرنا، اپنی اولادوں کے عقائد و نظریات پر صحیح توجہ نہ دینا وغیرہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کی انہی غلطیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہماری اکثریت عوام فرقہ واریت سے تنگ آکر تمام دیندار طبقہ کو متشدد سمجھ رہی ہے اور حکمرانوں، میڈیا، گمراہ لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ میڈیا نے سیکولر ازم عام کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا تو سائنسی رد نہ کیا البتہ دیندار طبقہ کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام علماء سے بدظن ہو کر دین سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ حرام افعال کو حلال سمجھ رہی ہے اور یہ عمل سیکولر ازم کا بنیادی سبب ہے۔

سیکولر ازم کا مقصد

سیکولر ازم کی ابتدا اگرچہ عیسائیوں کی اپنی غلطی سے ہوئی اور عیسائی پادری بھی اس پر خوش نہیں اگرچہ اسے روکنے سے بے بس ہیں اور اس کا خمیازہ آج سارا یورپ بھگت رہا ہے کہ اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں، زنا عام ہے، والدین اولڈ ہاؤس بھرتی ہیں، شراب نوشی کے عام ہونے اور اس کے نقصانات پر یورپی سائنس بھی رورہی ہے۔ لیکن اب اس سیکولر ازم کی نحوست کو اسلام دشمن کفار بالخصوص یہودی مسلمان ممالک میں عام کر کے مسلمانوں کو دین و جہاد سے دور کر کے اس پر حکومت کرنے کے خواہاں ہیں۔ ان کفار کا نادانستہ ساتھ وہ مسلم قوم دے رہی ہے جو مغرب سے پڑھے لکھے ہیں یا مغرب ممالک کی ترقی سے مرغوب ہیں اور وہی ترقی و نظام مسلم ممالک میں لانا چاہتے ہیں۔ کفار نے مسلم سیاستدانوں، این جی اوز اور میڈیا کو اپنا ہتھیار بنا کر یہ باور کروایا ہے کہ یورپ کی ترقی کا راز مذہب کو ملک سے الگ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی دانشور اور میڈیا کی مشہور شخصیات سیکولر ازم کی تعریفیات میں ہیرا پھیری کر کے اسے اسلامی تعلیمات کے موافق ثابت کر رہے ہیں جیسا کہ کئی گمراہ کن عقائد و نظریات کو اسلام ثابت کیا جاتا ہے۔

سیکولر ازم کو پھیلانے میں جن بدباطن اور کج فکر، لوگوں نے اہم رول اور کردار ادا کیا، ان میں سے، مغرب میں ڈارون جس نے تحقیق کے نام پر ”نظریہ ارتقاء“ کی بنیاد ڈالی، جو دنیا کا سب سے بڑا فریب شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح فرائیڈ نے ”نظریہ جنسیت“ پیش کیا، اسی طرح ڈار کا ایم نے ”نظریہ عقلیت“ پیش کیا، جان پول سارتر نے ”نظریہ وجودیت“ کی تحدید کی، پھر آدم اسمٹھ نے ”کینٹنل ازم“ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد ڈالی، کارل مارکس نے ”کیونزم“ کی بنیاد ڈالی، جو پچھلے تمام مادی افکار کا نچوڑ اور خلاصہ تھا اور مشرق میں کمال اتاترک، طہ حسین، جمال عبدالناصر، انور سادات، علی

پاشا، سرسید احمد خان، چراغ علی، عنایت اللہ مشرقی، غلام پرویز، غلام قادیانی وغیرہ نے انہیں افکار کو مشرق میں عام کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور اب اسی کو گلوبلائزیشن یعنی ”عالمگیریت“ کا نام دیدیا گیا ہے۔

ہمارے نام نہاد دلبرل دانشوروں نے روسو، والٹیر، ہیوگو، جان لاک، ہانبر، جان اسٹارٹل، کارل مارکس، فریڈرک اینجلز، ماؤزے تنگ، لینن اور یورپی مستشرقین کو تو بہت پڑھ رکھا ہے مگر انھوں نے کبھی اسلام کے صحیح معنوں میں مفکرین اور مورخین کو نہیں پڑھا۔ ان میں سے شاید ہی کسی نے امام غزالی، امام فخر الدین رازی، امام ابن جوزی، شاہ ولی اللہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہم جیسے نابغہ ہائے عصر کو کبھی پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہو، ان کا اسلام کے متعلق مبلغ علم بس اتنا ہے جتنا کہ یورپی مستشرقین کی تحریروں میں وہ دیکھ لیتے ہیں وہ اسلام کو اسلام کے اصل ماخذوں کی بجائے یورپی متعصب مصنفین کی تحریروں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ عربی زبان سے وہ واقف نہیں ہیں اور اردو زبان سے واقف ہونے کے باوجود اسے منہ نہیں لگانا چاہتے کہ اس طرح ان کی دانشوری ترقی پسندی سے پھسل کر رجعت پسندی کے گڑھے میں گر سکتی ہے۔ اگر کبھی قرآن و سنت کے بنیادی ماخذوں کے متعلق ان میں سے بعض کا میلان پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ یہ مطالعہ اس نیت سے کرتے ہیں کہ انہیں ایسا مواد مل جائے جس سے ان کی ”روشن خیالی“ اور ”ترقی پسندی“ کی تائید ہوتی ہو۔ وہ اسلام کی روشنی میں مغربی افکار کو جانچنے کا میلان نہیں رکھتے، ان کی فکر تنگ و دوساری اس نکتے کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح اسلام کو مغربی افکار کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو اسے ماڈرن بنا کر دکھایا جائے۔

دراصل یورپ کی ترقی کا راز ان کا نظام ہے نہ کہ سیکولر ازم۔ ورنہ عربی ممالک میں سیکولر ازم نہ تھی، اس کے باوجود وہاں ترقی و دولت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیکولر ازم ترقی نہیں بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے بربادی ہے کہ اگر دین کاروبار اور دیگر دنیاوی معاملات سے نکل جائے تو پھر درندگی پیدا ہوتی ہے۔

سیکولر لوگوں کے مکرو فریب

سیکولر لوگ کس طرح معنوی اور تاریخی ہیرا پھیری سے سیکولر ازم کو ایک نعمت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں اس پر کلام کیا جاتا ہے۔

مکر: سیکولر ازم کا ایک پہلو دنیوی امور کی انجام دہی بھی ہے اور اسلام دین و دنیا کی تفریق کا قائل نہیں ہے۔ لہذا سیکولر لوگ دنیا داری کو اسلام اور سیکولر ازم کے درمیانی قدر مشترک قرار دے کر اسلام اور سیکولر ازم کے درمیان فرق کو مٹا دینا چاہتے ہیں اور پھر اس استدلال کے ذریعے بزعم خویش ثابت کرتے ہیں کہ اسلامی ریاست ہی سیکولر ریاست ہے۔ روزنامہ ڈان (25 جون 2000ء) میں کراچی کے پروفیسر سید جمیل واسطی کا ایک مفصل مکتوب، اسلام اور سیکولر ازم کے عنوان سے چھپا ہے۔ موصوف رقم طراز ہیں: ”لفظ سیکولر کا لادینی ترجمہ کرنا درحقیقت اس لفظ کے اصل مطلب کو مسخ کرنے اور اس کی اہمیت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اس لفظ کو اس کے اصل تاریخی تناظر سے الگ کر کے صحیح طور پر سمجھا نہیں جاسکتا۔ مسیحی مغرب میں دو متحارب قوتیں تھیں۔ یعنی چرچ اور ریاست، پوپ، اور قیصر، جو ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لئے اکثر آپس میں لڑتی جھگڑتی

رہتی تھیں۔ اسلام کے مذہبی اور سیاسی نظام میں، نہ تو کوئی چرچ ہے، نہ کوئی پوپ اور نہ ہی کسی قیصر (Emperor) کی گنجائش ہے۔ پہلے چار خلفاء راشدین رضوان اللہ عنہم اجمعین نہ بادشاہ تھے نہ ہی سلطان، سیکولر کا متضاد لفظ (Theocratic تھیوکریسی) (Monastic راہبانہ) اور Clerical ہے۔ چونکہ اسلام میں کوئی چرچ نہیں ہے۔ نہ ہی کوئی راہبانہ سلسلہ ہے۔ اس لئے اسلام اور سیکولر ریاست دونوں اپنے شہریوں کو مذہبی آزادی دیتی ہیں۔ انہیں انسانی حقوق، آزادی، قانون و انصاف کی نگاہ ہی مساوات کی ضمانت دیتی ہیں، سیکولر کا مطلب ہے: دنیاوی اور مادی اور اسلام ایک جامع مذہب کی حیثیت سے چونکہ دنیاوی معاملات و مفادات کا احاطہ بھی کرتا ہے لہذا یہ ایک سول (Civil) اور سیکولر مذہب ہے۔

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں کے معاملات کا احاطہ کرتا ہے، اسلام میں دین و دنیا کی ثنویت نہیں ہے۔ اسلام جہاں اپنے پیروں کا روں کو اخروی زندگی کی تیاری کے لئے ہدایت کرتا ہے۔ وہاں انہیں یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ اس دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ مگر سیکولر ازم اور اسلام کی اپروچ یکسر مختلف ہے۔ اسلام اخروی و دنیاوی زندگی میں توازن کا درس دیتا ہے۔ مگر سیکولر ازم کے ہاں اخروی معاملات کی سرے سے گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہاں تو مقصود و مطلوب محض دنیاوی لذتوں کی طرف یکطرفہ رجحان خود غرضی، حرص اور مادہ پرستی کے جذبات پر وان چڑھتا ہے۔ سیکولر ازم میں دنیا سے شدید رغبت اور آخرت سے عدم رغبتی کا تصور ملتا ہے۔ اسی لئے اسلام اور سیکولر ازم میں ایک جزوی مماثلت کے باوجود دونوں کے نظریہ حیات میں بہت فرق ہے۔ لہذا اسلام کا سیکولر ازم سے موازنہ نہیں کیا جاسکتا۔ دنیا سیکولر ازم جیسی وسیع اصطلاح کا محض ایک پہلو ہے۔ اس اصطلاح کا غالب پہلو وہ ہے جسے لادینیت کہا جاتا ہے۔ پروفیسر جمیل واسطی صاحب جیسے افراد کی عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی برتری ظاہر کرنے کی یہ کاوش جیسی بھی نیت پر مبنی ہو، مگر اس کے مضمرات نہایت خطرناک ہوں گے۔ پاکستان میں بعض اشتراکی مفکرین نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے ”اسلامک سوشلزم“ کی اصطلاح وضع کی۔ اسلام اور اشتراکیت کے درمیان انہوں نے بہت سے مشترک پہلوؤں کی نشاندہی بھی کی۔ ایک اور طبقہ جو یورپ کی جمہوریت سے بے حد متاثر ہے وہ اسلام اور جمہوریت کے درمیان اسی طرح مشترک نکات کو بیان کر کے ”اسلامک ڈیموکریسی“ جیسی اصطلاح کو رواج دینے میں مصروف رہتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام، اسلام ہی ہے۔ اسے کسی سابقے یا لاحقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بقول واسطی صاحب اسلام ایک سیکولر مذہب ہے۔ تو پھر سیکولر ازم کے نفاذ کا مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے۔ سیدھی طرح اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس طرح کے التباس اور ابہام کو جان بوجھ کر کیوں پیدا کیا جاتا ہے۔

مکر: سیکولر لوگوں کا ایک دوسرا فریب یہ ہے کہ سیکولر لاطینی زبان کے لفظ سیکولم (Seculum) سے ماخوذ ہے جس کے معنی دنیا کے ہیں۔ سیکولر ازم جدید مغربی اصطلاح ہے جس کا مطلب ”ایسا سیاسی اور سماجی نظام ہے جس کی بنیادیں مذہب اور مابعد الطبیعیاتی نظریات کی بجائے عقل اور سائنسی اصولوں پر رکھی گئی ہو۔“ سبٹ حسن اپنی تصنیف ’نوید فکر‘ میں سیکولر ازم کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: ”قرون وسطیٰ میں رومن کتھولک پادری دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک وہ پادری جو کلیسا کے ضابطوں کے تحت خانقاہوں میں رہتے تھے۔ دوسرے وہ پادری جو عام شہریوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے کلیسا کی اصطلاح میں آخر الذکر کو سیکولر پادری کہا جاتا تھا وہ تمام ادارے بھی سیکولر کہلاتے تھے جو کلیسا کے ماتحت نہ تھے اور

وہ جائیداد بھی جسے کلیسا فروخت کر دیتا تھا۔ آج کل سیکولر ازم سے مراد ریاستی سیاست یا نظم و نسق کی مذہب یا کلیسا سے علیحدگی ہے۔“ (نوید فکر صفحہ 69)

انسائیکلو پیڈیا امریکانا کے مطابق ”سیکولر ازم ایک اخلاقی نظام ہے جو قدرتی اخلاق کے اصول پر مبنی ہے جو الہامی مذہب یا ما بعد الطبعیات سے جدا ہے اس کا پہلا کلیہ فکر کی آزادی ہے یعنی ہر شخص کو اپنے لیے کچھ سوچنے کا حق۔ ۲: تمام فکری امور کے بارے میں اختلاف رائے کا حق۔ ڈاکٹر عبدالحق کی انگلش اردو ڈکشنری کے مطابق سیکولر ازم اس معاشرتی اور تعلیمی نظام کو کہتے ہیں، جس کی اساس مذہب کے بجائے سائنس پر ہو اور جس میں ریاستی امور کی حد تک مذہبی مداخلت کی گنجائش نہ ہو۔“ (نوید فکر صفحہ 70)

سیکولر کہتے ہیں کہ سیکولر ازم کوئی مذہبی عقیدہ نہیں اس کا مطلب لادینیت نہیں بلکہ مذہب کے بارے میں غیر جانبدارانہ پالیسی اختیار کرنا ہے یہ ایک عملی تدبیر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی نزاع سے بچتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی امور میں مشترک بنیاد پر ملک کا نظام چلایا جائے۔ سیکولر ریاست کا کوئی سرکاری مذہب نہیں ہوتا۔ اس کے آئین کی رو سے تمام مذاہب کو مساوی درجہ حاصل ہوتا ہے اور کسی خاص مذہب کے ماننے والوں سے ترجیحی یا امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا۔ سیکولر سٹیٹ کا مقصد ملک میں مختلف مذاہب کے درمیان چپقلش کو ختم کرنا اور ان کے پیروؤں میں قومی یکجہتی پیدا کرنا ہے۔ سیکولر سٹیٹ کے لیے اردو میں ”لادینی ریاست“ کی ترکیب مستعمل ہے، لیکن یہ اس کا صحیح مترادف نہیں ہے۔ بلکہ اس کا صحیح مترادف صُدمح کُل بنتا ہے۔

سیکولر ازم یعنی جمہوریت اور مساوات، آئینی اور نمائندہ حکومت، فکر و ضمیر کی آزادی، سائنسی سوچ اور شہری حقوق کی جدوجہد جاگیریت اور سرمایہ داری کے درمیان نظریاتی جنگ ہی کی مختلف شکلیں تھیں۔ وہ حقوق جو سیکولر ازم کی جان ہیں: مثلاً تحریر و تقریر کی آزادی، ضمیر و فکر کی آزادی، پریس کی آزادی، تنظیمیں بنانے کی آزادی اور اختلاف رائے کی آزادی، ورنہ جاگیری دور میں تو کسی نے ان حقوق کا نام بھی نہ سنا تھا۔ سیکولر ازم کے رواج پانے سے کلیسا کی قائم کی ہوئی خوف و دہشت کی فضا ختم ہو گئی۔ ہر شخص کو پہلی بار اس بات کا موقع ملا کہ وہ دوسرے مسائل کی مانند مذہبی مسائل پر بھی بلا خوف و خطر غور کرے اور جو عقائد و رسوم خلاف عقل نظر آئیں ان کو رد کر دے۔

تاریخی اعتبار سے امریکہ عہد جدید کی پہلی سیکولر ریاست ہے۔ امریکہ کا نیا آئین جو 1788 میں منظور ہوا، خالص سیکولر آئین ہے۔ جس کے مطابق ریاست کے کسی عہدے کے لیے مذہب کی کوئی شرط نہیں اور امریکی کانگریس (پارلیمنٹ) مذہب کے قیام یا مذہب کی آزادی پر پابندی کے سلسلے میں کوئی قانون منظور نہیں کرے گی۔ امریکی آئین کے تحت پارلیمنٹ مذہب کے قیام یا مذہبی رسوم کے متعلق کوئی قانون وضع نہیں کر سکتی۔ اس طرح آئین نے ریاست اور کلیسا کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ امریکہ کے علاوہ کئی ممالک سیکولر نظریات پر عمل پیرا ہیں۔ سیکولر ریاستوں میں چین، جاپان، روس، فرانس، اٹلی، بھارت، ترکی، لبنان، ازبکستان کے علاوہ کئی ریاستیں شامل ہیں۔

سیکولر معاشرے کے ممتاز ادارے مندرجہ ذیل ہیں:

1- مقننہ۔ (وہ جماعت یا مجلس ہوتی ہے جو قوانین کو بناتی ہے، اس میں ترامیم کرتی ہے یا قانون کو ختم کر سکتی ہے۔) جو آزاد اور غیر جانبدار الیکشن کے ذریعے وجود میں آئے۔

2- عدلیہ۔ جس کو مرکزی اور خود مختاری کا مرتبہ حاصل ہو۔

3- انتظامیہ۔ جو عدلیہ اور عدالتی حاکمیت کی اطاعت کرتی ہو۔

4- پریس۔ جو رائے عامہ کے اظہار و تشکیل کا مقبول حربہ ہے۔

سیکولر ریاست میں ہر شخص بلا لحاظ مذہب مساوی درجے کا شہری ہوتا ہے۔ سیکولر ریاست کسی شہری کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں ہوتی نہ کسی کو مذہبی عقائد کی پابندی کرنے یا نہ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ سیکولر ریاست آئین طور پر کسی مذہب سے وابستہ بھی نہیں ہوتی نہ کسی مخصوص فرقے کے عقائد کو فروغ دیتی ہے۔

پاکستان کے حوالے سے متعصب، اور مذہبی تنگ نظر لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سیکولر ازم کے حامی پاکستان کے عوام کو لادین بنا کر ان سے ان کا مذہب اسلام چھیننا چاہتے ہیں یا ان کو مذہب اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کم علمی اور جہالت پر مبنی ایک مکروہ پروپیگنڈا ہے، جس کا واضح مقصد معصوم عوام کو گمراہ کر کے ان کو مہذب طرز معاشرت سے محروم کر کے معاشرے میں انتشار اور کنفیوژن پیدا کرنا اور اسلام کی غلط تشریحات و تاویلات کے ذریعے معاشرے پر ملاؤں کی گرفت کو محفوظ رکھنا، روشن خیالی، ترقی پسندی اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ثمرات کو اپنی انا اور اجارہ داری کی خاطر اپنے فتوؤں کی بھینٹ چڑھا کر عوام الناس کو ترقی اور خوشحالی سے محروم رکھنا ہے۔ سیکولر ازم کے مخالفین کا اولین مقصد معاشرے میں مذہب کے عمل و دخل کی آڑ میں معاشرے پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے۔

جواب: بات محض سیاست کو مذہب سے دور رکھنے کی نہیں، یہ بات کچھ اور ہے جسے سیکولر لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکولر وہ سب کچھ اندرون متن یا زیر سطور کہہ رہے ہیں جن سے انکی اسلام دشمنی واضح ہوتی ہے۔ مثلاً مشرف کے نامشرف دور میں وزیر اعظم شوکت عزیز نے خشک سالی سے نجات کیلئے عوام سے دعا اور نماز استسقاء کی اپیل کی تو جواب میں سیکولر ازم کے مدوح پرویز ہود بھائی نے روزنامہ ڈان میں طنزاً لکھا کہ بارشیں نمازوں سے نہیں آتیں، یہ تو قانون فطرت کے مطابق بادل بنتے ہیں اور برستے ہیں۔ پرویز ہود یا بے ہود بھائی لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیتے کہ ”قانون فطرت“ کس نے بنائے ہیں تو پاکستان کے ”جذباتی“ مذہبی عوام کے علم میں اضافہ ہو جاتا۔ حمید اختر نے اپنے ایک کالم میں ”داڑھی“ والوں کے بارے میں طنزاً فرمایا کہ موجودہ حالات میں ان سب کو پکڑ لینا چاہیے۔ یہ تو پھر معمولی بات ہے، بینا سرور تو چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی اہانت کی اجازت ہونی چاہئے۔ اس سب کے باوجود ستم ظریفی دیکھیں کہ سیکولر حضرات زندگی کی ہر روش اور چلن سے مذہب کو کھرچ کھرچ کر نکالنا چاہتے ہیں اور پھر پوپلانہ بنا کر عوام کی طفل تسلی کیلئے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو مذہب کجخلاف نہیں۔

دوسرا مستند ماخذ جو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سیکولر ازم لادینیت ہے یا نہیں خود قرآن حکیم ہے۔ مثلاً سیکولر حضرات نفاذ شریعت کیخلاف ہر وقت مورچہ زن رہتے ہیں اور ساتھ ہی ”فرماتے“ جاتے ہیں ہم مذہب کیخلاف نہیں۔ قرآن ایسے تصورات اور رویوں کو کفر سے تعبیر کرتا ہے، میں اپنی بات کی تائید میں سورہ البقرہ کی آیت 85 کا حوالہ دوں گا۔ ”کیا تم کتاب کے ایک حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصہ کا انکار کرتے ہو، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں تو انکی سزا سوائے اسکے کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیئے جائیں۔“ سورۃ المائدہ 42 میں یہی بات کہی گئی ہے۔ ”جو لوگ خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔“ اب آپ ہی فرمائیں کہ سیکولر ازم کو لادینیت اور کفر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ اصل میں سیکولر حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یورپین مذہبی تجربے کو پاکستان کے معاشرتی منظر نامہ پر تھوپنا چاہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام عیسائیت نہیں اور نہ مسلم دنیا مغربی تہذیب کا حصہ ہے، اسی لئے اس سارے عمل سے جو نتیجہ وہ نکالتے ہیں وہ غلط اور گمراہ کن ہوتا ہے۔

سیکولر لوگوں کا دوسرا مقدمہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں ہی کی موروثی بادشاہت کو سیکولر کہنا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ اگر سیکولر سے مراد دنیاوی مسائل سے متعلق ہونا ہے تو پھر خلافت راشدہ بھی سیکولر تھی، اسی لئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خلافت راشدہ کے زمانے کے بعد کے زمانے کو کیوں سیکولر سمجھتے ہیں؟ کیا اس لئے کہ موروثیت میں خلافت راشدہ کی طرح آزاد بیعت نہیں ہوتی تھی؟ یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ خلافت راشدہ اور موروثیت میں بڑا واضح فرق ہے اور مسلمانوں کا مثالی نظام ہمیشہ سے خلافت راشدہ رہا ہے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا جیسے موروثی بادشاہت کے ساتھ ہی اسلامی نظام کو دیس نکال لیا گیا تھا، قطعاً غلط بات ہے۔ ہاں البتہ یہ تاریخی امر ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمان مفکرین علماء میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ بدلتے حالات میں موروثی بادشاہت سے کس طرح نمٹا جائے۔ کچھ لوگوں نے بغاوتیں کیں، لیکن بالآخر یہ اجماع پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمان حکمران اسلامی نظام عدل اور نفاذ شریعت کو برقرار رکھیں تو انکی اطاعت کی جاسکتی ہے۔ اس طرز فکر کو بعد میں الماوردی، ابن خلدون اور ابن تیمیہ نے باقاعدہ تحریر کیا اور حکمرانوں کیلئے لازم قرار دیا کہ وہ شریعت کے محافظ اور نگہبان بنیں۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے کئی سلاطین گزرے ہیں جن کی شرافت، حمیت اور عظمت کی قسمیں کھائی جاسکتی ہیں۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ بالعموم وہ شریعت کے محافظ اور نگہبان تھے۔ انہی سلاطین کے دور میں اسلامی سلطنت کو وسعت اور استحکام ملا۔ انہوں نے ہی مسلمانوں کی عزت و آبرو کا بھرم رکھا اور اسلامی قوانین کے اطلاق کو جاری و ساری رکھا۔ خود ہمارے ہاں غوریوں، غزنویوں، لودھیوں اور مغلوں نے اسلامی طرز معاشرت اور اسلامی قوانین کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بھی جیسے بہاولپور، سوات اور دیر وغیرہ میں قیام پاکستان کے بعد بھی اسلامی نظام عدل رہا۔ ان بادشاہوں نے جنہیں سیکولر حضرات مطعون کرتے تھکتے نہیں، مسلمان معاشرہ کی اسلامی سمت برقرار رکھنے میں زبردست کردار ادا کیا۔ طوالت سے بچنے کیلئے صرف ایک مثال دوں گا۔ جب اُمویوں کے دور کے آخر میں زنادقہ تحریک نے پر پُرزے نکالے تو عباسی خلفاء المنصور اور المہدی نے تہیہ کر لیا کہ انہیں ختم کر دیا جائے۔ زنادقہ جیسا کہ انکے بارے میں معلوم ہے الحاد کا پرچار کرتے تھے، وہ خدا اور مذہب میں یقین نہیں

رکھتے تھے اور عوام کو شراب نوشی، زنا اور جوا کی طرف راغب کرتے تھے۔ چنانچہ نہ صرف انہیں قتل کیا گیا بلکہ فتنہ ارتداد کچلاں کتابیں حکومتی سرپرستی میں لکھائی گئیں۔ اسی طرح جب خلیفہ المہدی دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے الہادی کو جو وصیت کی وہ اسکے اسلامی جذبوں کی ترجمان ہے۔ ”اگر یہ حکومت کبھی تمہارے ہاتھ آئے تو مانی کے پیروکاروں کو ختم کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔“ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو یا ان کے بعد کے ادوار جھوٹے نبوت کے دعویداروں کا فتنہ ختم کر کے امت مسلمہ کو فتنوں سے محفوظ کیا اور ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اس لئے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک مسلمان معاشرے کو لادینیت کی طرف ہانکا جاسکتا ہے؟ مسلم دنیا میں جہاں بھی یہ تجربہ کیا گیا وہاں اس کے نتائج ہولناک نکلے۔

مکر: سیکولر یہ ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بلکہ سیکولر طور پر بنا تھا۔ سیکولر اپنی تائید میں قائد اعظم محمد علی جناح کے چند بیانات پیش کرتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

2 نومبر 1941 کو علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب میں قائد اعظم نے کہا: ”آپ ہندوؤں اور سکھوں کو بتادیں کہ یہ بات سراسر غلط ہے کہ پاکستان کوئی مذہبی ریاست ہوگی اور اس میں غیر مسلموں کو کوئی اختیار نہیں ہوگا۔“

11 اپریل 1946 کو مسلم لیگ کنونشن دہلی میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا: ”ہم کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد تھیو کریسی نہیں ہے اور نہ ہی ہم تھیو کریٹک اسٹیٹ چاہتے ہیں۔ مذہب ہمیں عزیز ہے لیکن اور چیزیں بھی ہیں جو زندگی کیلئے بے حد ضروری ہیں۔ مثلاً ہماری معاشرتی زندگی، ہماری معاشی زندگی اور بغیر سیاسی اقتدار کے آپ اپنے عقیدے یا معاشی زندگی کی حفاظت کیسے کر سکیں گے۔“

1946 میں رائٹرز کے نمائندے ڈول کیمبل کو انٹرویو دیتے ہوئے قائد اعظم کا کہنا تھا: ”نئی ریاست ایک جدید جمہوری ریاست ہوگی جس میں اختیارات کا سرچشمہ عوام ہوگی۔ نئی ریاست کے ہر شہری مذہب، ذات یا عقیدے کی بنا کسی امتیاز کے یکساں حقوق ہونگے۔“

یکم فروری 1948 کو امریکی عوام سے ریڈیو خطاب میں قائد اعظم نے کہا: ”پاکستان ایک ایسی مذہبی ریاست نہیں بنے گا جس میں مذہب کے نام پر حکومت کرنے کا اختیار ہوگا۔ ہماری ملک میں بہت سے غیر مسلم شہری موجود ہیں مثلاً ہندو، مسیحی اور پارسی وغیرہ لیکن وہ سب پاکستانی ہیں۔ انہیں وہی حقوق اور مراعات حاصل ہونگی جو دیگر شہریوں کو دیئے جائیں گے اور انہیں پاکستان کے امور مملکت اپنا کردار ادا کرنے کا پورا موقع ملے گا۔“

19 فروری 1948 کو آسٹریلیا کی عوام کے نام ایک نشریاتی تقریر میں قائد اعظم نے ایک واضح اعلان کیا: ”پاکستان کی ریاست میں تھیو کریسی (پادریوں کی حکومت) کی طرز حکومت کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔“

قائد اعظم کے تصورات کا ایک لازمی جزو سیکولر ازم تھا۔ قائد اعظم کا مقصد واضح طور پر مذہب اور سیاست میں تفریق تھا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد ایک ہندوستان دشمن ریاست بنانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں برصغیر کے مسلمان سیاسی اور اقتصادی آزادی کا مزہ لے سکیں اور پاکستان کا ہر شہری اپنے دین پر بلا خوف و خطر عمل کر سکے۔ قائد اعظم کی زندگی کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے ہمکنار

کرنے کے ساتھ ساتھ ایک باوقار شہری بنانا بھی تھا، اکثریت اور اقلیت کا فرق مٹانا چاہتے تھے۔ پاکستان کو امریکہ اور برطانیہ جیسی ترقی پسند ریاست بنانا قائد اعظم کا مقصد تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد ہم راستہ سے بھٹک گئے اور قائد اعظم کے نظریات مسخ ہو گئے۔

جواب: سیکولر طبقے کے ایسے دلائل کہ جناح ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، زیادہ مضبوط نہیں ہیں۔ سیکولر جو اقتباسات پیش کرتے ہیں ایک تو یہ جمل اور قابل تاویل ہیں کہ قائد اعظم ہر پاکستانی کے حقوق بیان کر رہے ہیں چونکہ پاکستان میں دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے اس لیے قائد اعظم نے ان کو بھی پاکستانی کہا لیکن ان بیانات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلامی حکومت بنانے کو ناپسند کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں بعض کا تو اہم مسلمان بھی اعتراف کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ پاکستان کی ریاست میں تھیو کریسی نہیں۔ تیسری بات یہ کہ ایک دو ایسی باتیں ہیں جن کا منسوخ ہونا قائد اعظم کی بعد کی تقریروں سے ثابت ہے۔ ہندوستان سے علیحدہ ہونے کے فوری بعد جناح صاحب نے قانون سازوں سے اسلامی بینکاری نظام وضع کرنے کو کہا، اب آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ ان کے مطابق سیکولر بھارت کے برعکس معرض وجود میں آنے والی نئی ریاست پاکستان کی کچھ تو امتیازی خصوصیات ہونا تھیں۔ ان کے مطابق جناح نے سوچا کہ یہ امتیازی پہلو مذہب ہی ہو سکتا ہے۔

سیکولر لوگوں کے مطابق جناح کی ذاتی زندگی بہت ہی سیکولر تھی لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ ان کے ذاتی رویوں کا اثر ان کی سیاست پر بھی تھا، بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناح نے اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا لیکن اقلیتوں کے بارے میں بات کرنے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ وہ ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے۔

قائد اعظم نے 24 سے 26 دسمبر 1943ء تک کراچی میں ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے 31 ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ”آل انڈیا مسلم لیگ کے بھائیو اور خواتین و حضرات! میں اس بات پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا۔ اگر ایک مثال کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کی حالت بیان کی جائے تو کہا جائے گا کہ بھارت کے مسلمانوں کا وہی حال تھا جو ایک بیمار اور قریب المرگ شخص کا ہوتا ہے۔ ایسا شخص قلت تو انائی کے باعث نہ کوئی شکایت کرتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے، بالخصوص وہ اس بات کے شعور کا حامل نہیں ہوتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اسے اس بات کی پروا نہیں ہوتی کہ اس کے یا کسی اور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا دنیا کا کیا ہو گا۔ سات سال قبل بھارت کے مسلمانوں کی حالت ایسی ہی تھی۔ مگر آج بیمار شخص بستر مرگ سے اتر آیا ہے۔ اس نے ہوش سنبھال لیا ہے۔ اب اس کی کئی شکایات ہیں۔ اس کے پاس کئی تجاویز اور مشورے ہیں۔ وہ کئی جگہڑوں اور قضیوں کا حل چاہتا ہے۔ یہ ایک اچھی علامت ہے بشرطیکہ وہ اپنی حدود میں رہے۔ یہ ایک صحت مند انسان کی علامت ہے۔ میں مسلمانوں کی بیداری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔“

اس خطبہ میں قائد اعظم مسلمانوں کے بیدار ہونے پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیداری ملک حاصل کرنے کے اہم سبب ہے۔ اسی بیداری نے اسلام کے نام پر پاکستان حاصل کیا۔

مزید قائد اعظم نے واضح طور پر فرمایا: ”دستور ساز اسمبلی کا یہ کام ہو گا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایسے قوانین بنائے جو شرعی قوانین سے متصادم نہ ہوں اور مسلمانوں کے لیے اب یہ مجبوری نہیں ہوگی کہ وہ غیر اسلامی قوانین کے پابند ہوں۔“

دراصل دستور اسمبلی کے مباحث میں ہندو اراکین کی طرف سے جو باتیں کی گئی تھیں، ان میں یہ واضح تھا کہ وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے۔ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمان اپنا مذہب ایک طرف رکھتے ہوئے نئی مملکت پاکستان کو سیکولر قرار دیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کو معاشرے کی تعمیر میں کوئی جان دار کر دیا جائے۔ جب قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور معاشرتی و سیاسی حقوق میں انہیں مساویانہ مقام دلانے کا اعادہ کیا تو وہ سمجھے کہ شاید پاکستان ایک سیکولر ملک ہو گا۔ سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی قراردادوں میں اسلام کا کہیں ذکر نہیں۔ لیکن اگر ایسی قراردادوں کے پیچھے مسلم لیگی فکر دیکھنی ہے تو ان تقاریر میں دیکھیں جو قائدین نے ایسے مواقع پر کی تھیں۔ مثلاً 1940 کی قرارداد لاہور کی منظوری سے پہلے جو تقریر قائد اعظم نے کی تھی، اس کے مندرجات میں نہ صرف ان کا مسلمانوں کے تہذیبی پس منظر اور اسلامی فکر کا گہرا ادراک جھلکتا ہے بلکہ وہ تاریخ کے عظیم شعور کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان نہ پہلے ایک قوم تھے اور نہ اب، نہ مستقبل میں کبھی ایک ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اسلامی تصور معاشرت ہندو تصورات سے بالکل جدا ہے۔

پروفیسر دلفریڈ کینٹ ویل سمٹھ اپنی مشہور کتاب Islam in Modern History میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہے کہ قیام پاکستان مسلمانوں کے مذہبی وجود کا مرہون منت ہے۔ قائد اعظم کی کم و بیش ایک سو سے زیادہ ایسی تقاریر موجود ہیں جن میں انہوں نے اسلامی نظام اور اسلامی قانون کی بات کی ہے۔ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اسلام کے بارے میں ان کی حساسیت بڑی گہری تھی۔ ان کے کردار اور ان کے طرز تکلم کی سنجیدگی اس وقت کے سیکولر لوگوں کو بھی کھکتی تھی۔ چنانچہ کراچی کی تقریب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انہوں نے کہا بھی دیا کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ بُرا مناتے ہیں۔ 25 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا: ”وہ ایسے لوگوں کو سمجھ نہیں پائے جو جان بوجھ کر فتنے کھڑے کرتے ہیں اور پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا دستور شرعی بنیادوں پر تشکیل نہیں دیا جائے گا۔“

قائد اعظم کے اسلامی جوہر کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے رتی باری سے شادی کے لیے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ پہلے اسلام قبول کرے، پھر سول میرج کے بجائے اپنا نکاح ایک مولوی سے پڑھوایا۔ قائد اعظم نے اپنی اکلوتی بیٹی سے صرف اس لیے قطع تعلق کر لیا کہ اس نے ایک غیر مسلم سے شادی کر کے اسلام سے ناشائستگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ غازی علم دین شہید کا کیس قائد اعظم کا لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سیکولر نہ تھے ورنہ آج کے سیکولر تو دینداروں کو چھوڑ کر گستاخان رسول کے حق میں کیس لڑتے ہیں جیسا کہ عاصمہ جہانگیر کا حال تھا۔

مکر: سیکولر لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر اقبال برصغیر جنوبی ایشیا میں اسلامی مملکت کے قیام کے خلاف تھے۔ اپنے اس مقدمہ کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ دلیل سامنے لاتے ہیں کہ اقبال عوام پاکستان کے لیے اسلامی مملکت کا نہیں بلکہ مسلمانوں کی مملکت کا تصور پیش نظر رکھتے تھے۔ ساتھ ہی وہ یہ

بھی کہتے ہیں کہ اقبال مسلمانوں کے لیے برطانوی ہند کے اندر ایک خود مختار ثقافتی یونٹ کا قیام چاہتے تھے۔ مزید ڈاکٹر اقبال کے وہ اشعار جو وطن سے محبت پر ہیں سیکولر ان کو دلیل بناتے ہیں کہ اقبال برطانوی حکومت اور ہندوستان کی سر زمین کو پسند کرتے تھے۔

جواب: یہ دونوں باتیں باہم متضاد ہیں، کیونکہ اگر ان کی یہی خواہش تھی کہ برطانوی ہند سے جدا نہ ہوں اور اس کا حصہ بن کر رہیں تو یہ بحث ہی غیر متعلقہ ہو جائے گی کہ وہ اسلامی مملکت چاہتے تھے یا مسلمانوں کی مملکت۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا: ”اگر ہندوستان میں مسلمانوں کا مقصد اور ہدف محض سیاست کے ذریعے آزادی کا حصول اور کچھ معاشی خوش حالی ہے اور اسلام کا تحفظ اور دفاع ان کے پیش نظر نہیں جیسا کہ (ہندی) قوم پرستوں کے کردار سے عیاں ہے تو مسلمان اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔“

اس کے علاوہ ڈاکٹر اقبال کا مغربی نظام سے بیزاری پر اشعار پڑھنا اور مسلمانوں کو بیدار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو لازم پکڑنے کا ذہن دینا اور الہ آباد میں دو قومی نظریے کا اظہار کرنا، غازی علم دین شہید کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سیکولر نظام نہیں بلکہ ایک اسلامی نظام چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نے روزنامہ ”زمیندار“ کے ایڈیٹر مولانا ظفر علی خاں کے نام اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ ”میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ دلائل و براہین پر مبنی ہے کہ انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا بہترین حل قرآن میں موجود ہے۔ مسلمان جو یورپ کی پولیٹیکل اکانومی پڑھ کر مغربی خیالات سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں ان کے لئے لازم ہے کہ اس زمانے میں قرآن کریم کی اقتصادی تعلیم پر نظر غائر ضرور ڈالیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی تمام مشکلات کا حل اس کتاب میں پائیں گے۔“

ڈاکٹر اقبال کے اس خط سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ مغرب کے اقتصادی نظام کے خلاف تھے۔ قائد اعظم نے مارچ 1941ء میں ڈاکٹر اقبال کی غیر معمولی بصیرت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”علامہ اقبال سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا اور مجھے اس امر پر فخر ہے کہ ان کی قیادت میں مجھے ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار اور اسلام کا شیدائی کسی کو نہیں دیکھا۔“

سیکولر ازم تو ریاست اور سیاست کو مذہب سے الگ رکھنے کا نام ہے، چاہے وہ اسلام ہو یا کوئی اور مذہب اور علامہ اقبال کا یہ نقطہ نظر ہے: ”اگر اسلام کو بھی دوسرے مذہب کی طرح ایک نجی معاملہ سمجھا گیا تو اسلام کے اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی بھی وہی حیثیت ہوگی جو حشر مغرب میں مسیحیت کا ہوا ہے۔“ دین اور سیاست کو جدا سمجھنے والوں کے لیے فرماتے ہیں کہ

جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو

جدا ہو دین سیاست سے، تو رہ جاتی ہے چنگیزی

29 دسمبر 1930 میں ڈاکٹر اقبال نے جو تاریخی خطبہ الہ آباد کیا اس کا اقتباس ہے: اسلام فرد کی زندگی کو دین اور دنیا کے الگ الگ خانوں میں نہیں بانٹتا۔ وہ مادے اور روح کی کسی ناقابل اتحاد ثنویت کا قائل نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ انسان آلائشوں سے لبریز اور ناپاک اس دنیا کا کوئی باشندہ ہو، جسے وہ کسی دوسری دنیا کی خاطر ترک کر دے جہاں روح رہتی ہے، اسلام کے نزدیک مادہ روح کا وہ روپ ہے جو قید مکان و زمان میں گھرا ہوا

ہے۔ یورپ کی عیسائی ریاستوں کی زندگی سے مذہب عیسوی تقریباً خارج ہو گیا ہے۔ میری خواہش ہے (اور مجھے یقین ہے کہ) شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔

مکر: سیکولر ازم ترقی ہے۔

جواب: سیکولر لوگوں کی دین کے خلاف ایک بڑی کوشش شروع سے یہ رہی ہے کہ دین کو سیاست سے الگ کر دیا جائے۔ لہذا پاکستانی قوم کو سیکولر اور مذہبی حصوں میں تقسیم کرنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ قوم کو سبز باغ دکھا کر یہ بات بڑے تو اتر کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے کہ جب تک مذہب کو سیاست سے الگ کر کے ”چنگیزیت“ نافذ نہیں کی جاتی، اس وقت تک ترقی ناممکن ہے۔ بد قسمتی سے مغربی تقلید پر کمر بستہ ہمارے بعض دانشور حضرات ہر اس چیز کو من و عن لینا چاہتے ہیں جسے مغرب نے کسی بھی مرحلہ پر اختیار کیا ہو۔ پھر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ان خوبیوں کو حاصل کرنے پر اتنا زور نہیں دیتے جن کے ذریعے مغرب نے ترقی کی بلکہ ہماری توجہ ان برائیوں اور معاشرتی کمزوریوں پر مرکوز ہوتی ہے جن کی وجہ سے مغربی معاشرہ رو بہ زوال ہے، جس کا وہ بارہا خود بھی اعتراف کر چکے ہیں۔ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی سوچ اور معاشرتی اقدار کو ان کی غلامی سے آزاد کریں؟ جہاں تک وطن عزیز میں ترقی کی راہ میں مذہب کا حائل ہونا ہے تو مذکورہ بالا فکر کے حامل حضرات کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ جس میں حکومت نے عوامی بہبود و فلاح کے لئے کوئی منصوبہ شروع کیا ہو اور اسے مذہبی حلقوں نے اس بنا پر رد کیا ہو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یا اسلامی احکام اس کی راہ میں حائل ہیں۔

دراصل یہ غلط فہمی کہ ”ہمارے ہاں مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے“ اس پس منظر کو نظر انداز کرنے سے ہوئی ہے جس پس منظر میں مغربی سیکولر انقلاب پروان چڑھا تھا جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ پادریوں کے ظلم اور عیسائی مذہب کے غلط عقائد و نظریات سے تنگ آکر سیکولر ازم دہریت کو فروغ ملا۔ جبکہ قرون وسطی (Medieval) کے جابر چرچ کی اسلام جیسے عادلانہ اور رحمدل مذہب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اسلام اور اس وقت کے چرچ کا موازنہ کس طرح کیا جاسکتا ہے؟ حالانکہ چرچ کے مظالم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والا اسلام ہی ہے چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! بیشک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ (سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 34)

لہذا جو مذہب یورپی قرون مظلمہ (ages dark) کی خود یورپی باشندوں سے بھی ایک ہزار سال پہلے مذمت کرے اسے انہیں قرون مظلمہ جیسا قرار دینا سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ اسلام تو ترقی اور خوشحالی کا پیامبر ہے جدید ٹیکنالوجی کی مخالفت تو دور کی بات ہے وہ تو اس کی ہمت افزائی کرتے ہوئے نوید سناتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور وہ پیدا کرے گا جس کی تمہیں خبر نہیں۔

(سورۃ النحل، سورۃ 16، آیت 8)

الغرض کسی طور پر بھی یہ درست نہیں کہ ہمارے ہاں مذہب کو سیاست سے اسلئے دور رکھا جائے کہ وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔

کئی جاہل نام نہاد مسلمان سیاستدانوں کا یہ بیان آیا کہ اگر پاکستان سیکولر ہو جائے تو دنیا میں اس کا وقار بلند ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا واقعتاً اگر ہم سیکولر ہو جائیں تو دنیا میں ہمارا وقار بلند ہو سکتا ہے؟ لیکن ہر دعویٰ اپنی شہادتیں طلب کرتا ہے۔ البتہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ مارشل ٹیڈ کے سابق یوگوسلاویہ میں رہنے والے بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمان سر تاپا سیکولر تھے اتنے سیکولر کہ انہوں نے اپنے مسلم ناموں تک کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کے جواب میں عالمی برادری نے انہیں کتنا وقار فراہم کیا؟ یوگوسلاویہ ٹوٹا تو بوسنیا و ہرزیگووینا کی سیکولر مسلمانوں کے لیے آزادی کا امکان پیدا ہوا مگر امریکہ اور پورے یورپ نے کہا کہ ارے یہ مسلمان سیکولر تھوڑی ہیں یہ تو صرف مسلمان ہیں چنانچہ انہوں نے سربوں اور کروشیائی باشندوں کو مسلمانوں پر چھوڑ دیا اور انہوں نے ساڑھے تین سال کی جنگ میں دو سے ڈھائی لاکھ بوسنیائی مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ سربوں نے یہ کہہ کر مسلمانوں کو قتل کیا کہ تم نہیں تو کیا تمہارے آباؤ اجداد تو مسلمان تھے۔ آپ کو معلوم ہے، بوسنیا میں ہونے والے اکثر حملوں کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت کیا تھی؟ یہ کہ ان میں سے اکثر حملے پڑوسیوں نے کیے۔ ان پڑوسیوں نے جو چالیس اور پچاس سال سے مسلمانوں کے پڑوسی تھے۔

سوال یہ ہے کہ اس تجربے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا یہ کہ سیکولرزم نے مسلمانوں کا وقار عالمی برادری میں بہت بلند کر دیا۔ یہ تو ایک قوم کی مثال ہوئی۔ دوسری مثال ایک راہنما یعنی یاسر عرفات کی ہے۔ یاسر عرفات بنیاد پرست نہیں تھے۔ وہ اپنی نہاد میں ایک قوم پرست اور سیکولر راہنما تھے مگر مغرب ان کو دہشت گرد کہتا تھا۔ اسرائیل ان کے خون کا پیاسا تھا۔ یاسر عرفات بالآخر مغرب اور اسرائیل کے ایجنڈے کے تحت وضع کیے گئے امن سمجھوتے پر بھی آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اس سمجھوتے پر دستخط بھی کر دیے مگر اسرائیل نے اس سیکولر راہنما کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کی ایک شق پر بھی عمل درآمد کر کے نہ دیا۔ اسرائیل نے یاسر عرفات کو بالآخر ان کے دفتر میں محصور کر دیا اور تقریباً تین سال تک محصور رکھا۔ یاسر عرفات اس دفتر سے نکل کر فرانس پہنچے تو چند ہی روز میں ان کا نہایت پر اسرار حالات میں انتقال ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یاسر عرفات کا سیکولرزم ان کے اور خود ان کی قوم کے کتنا کام آیا؟

تیسری مثال ترکی کی ہے۔ پاکستان تو اسلامی جمہوریہ ہے مگر ترکی تو آئینی اعتبار سے سیکولر ہے اور دوچار سال سے نہیں 80 سال سے سیکولر ہے مگر اس کے باوجود ترکی چالیس برس سے یورپی اتحاد کے دروازے پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اندر آنے دو اور ترکی سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو مسلمان ہو۔ سوال یہ ہے کہ ترکی کے سیکولر حال اور سیکولر ماضی نے عالمی برادری میں ترکی کے وقار کو کتنا بلند کر دیا ہے اور ترکی کا سیکولرزم اس کے کتنے کام آ رہا ہے؟

خود پاکستان کی تاریخ سیکولر سیاسی لیڈروں کی تاریخ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان لیڈروں نے عالمی برادری میں پاکستان کے وقار کو کتنا بلند کیا ہے؟ اس کی کوئی ایک مثال، صرف ایک مثال؟ ستر سال کے سیکولرزم کو اتنا غریب تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک مثال بھی پیش نہ کر سکے۔ اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں۔ مسلم دنیا گزشتہ ستر سال سے سیکولر دنیا ہی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں اگر غربت ہے تو اس کا ذمہ دار سیکولرزم اور اس کے علمبردار ہیں۔ اس دنیا میں اگر ناخواندگی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی بنیاد پرست نہیں ہیں۔ اس دنیا میں اگر بد عنوانی ہے تو یہ بد عنوانی بھی مولویوں نے نہیں کی

ہے۔ اس دنیا میں اگر لاقانونیت ہے تو اس کے ذمہ دار بھی مذہبی عناصر نہیں ہیں اس لیے کہ گزشتہ ستر برسوں میں کہیں بھی مذہبی عناصر اقتدار میں نہیں رہے۔

اس تناظر میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ضرورت سیکولر ازم نہیں مذہب ہے۔ سیکولر ازم مسلم دنیا میں گندا انڈا ثابت ہو چکا۔ اس سے کچھ برآمد ہونا ہوتا تو اس کے لیے پچاس سال بہت تھے مگر ہم نے دیکھ لیا کہ اس سے کچھ برآمد نہیں ہوا چنانچہ اب سیکولر ازم کی حمایت مسلمانوں اور ان کے معاشروں سے بدترین زیادتی ہے۔

دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اس تاریخ میں جہاں کہیں کسی نے عزت و توقیر حاصل کی ہے، اپنی انفرادیت پر اصرار کر کے کی۔ ہم نے اپنی جداگانہ شناخت پر اصرار کیا تو پاکستان بنا اگر ہم متحدہ قومیت کے قائل رہتے تو پاکستان وجود میں نہیں آسکتا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کشش کا اصول مختلف ہوتا ہے یکساں نہیں۔ اول تو مسلمان سیکولر ہو ہی نہیں سکتے اور اگر ہو بھی جائیں تو صرف نقال بن کر رہ جانا ہی ان کا مقدر ہو گا۔ ظاہر ہے کہ ہماری تاریخ میں تو سیکولر ازم کی کوئی مثال نہیں چنانچہ ہمیں یورپی تاریخ میں سیکولر ازم کے سبب ہونے والی بربادی کو یاد رکھنا ہو گا۔

سیکولر ازم کے تاریخی نقصانات

سیکولر ازم جن معاشروں میں نافذ ہوا اور جہاں جہاں ایسے حکمران منتخب ہوئے یا مسلط کیئے گئے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں انھوں نے اس سیکولر ازم کے نام پر انسانی خون استقدر بہایا، ظلم و تشدد اتنا کیا اور رعایا کو بھوک اور افلاس کا شکار اس قدر رکھا اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ صرف مسلمان ملکوں کے سیکولر حکمرانوں کی فہرست اٹھالیں۔ ان کے کارنامے پڑھ کر آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔

مصر سے شروع کرتے ہیں، جمال عبدالناصر جس کے دامن پر انخوان المسلمین کے ڈھائی لاکھ لوگوں کو قتل کرنے کا الزام ہے، جس کے جیل خانوں کے تشدد کی کہانیاں لرزادینے والی ہیں۔ بڑے بڑے رہنماؤں کی پھانسیوں کی ایک قطار ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی۔ سیکولر ازم اس کے خون میں رچا ہوا تھا۔ اسرائیل سے جنگ شروع ہوئی تو قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا ”اے فرعون کے بیٹو! آج تمہارا مقابلہ موسیٰ کی نسل سے ہے“۔ مذہب کو ریاست سے دور رکھنے کا دعویٰ کرنے والا یہ سیکولر حکمران دنیا کے ظالم ترین حکمرانوں میں شمار ہوتا ہے۔

اس کے بعد اس کے فلسفہ پر عمل کرنے والے انور السادات اور حسنی مبارک بھی اسی روش پر قائم رہے اور انسانوں کا خون بہاتے رہے۔ عراق میں احمد حسن البکر اور پھر صدام حسین بھی سیکولر حکمران تھے جو ریاست کے کاروبار میں مذہب کے داخلے کو حرام سمجھتے تھے۔ صرف کر دوں پر ڈھائے جانے والے مظالم انھیں تاریخ کے بدترین اور ظالم حکمران ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے بعد سیکولر صدام حسین نے پہلی دفعہ آبادیوں پر کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیئے۔ سیکولر ازم کے پرزور نفاذ کے یہ حامی حکمران ہر اس آواز کو خاموش کر دیتے ہیں جس کے منہ سے یہ لفظ بھی

نکلتا کہ مذہب بھی انسانی زندگی میں ایک نافذ العمل چیز ہے۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے قاتل ایران میں شاہ رضا پہلوی کی سیکولر آمریت ساوک کے ظلم و ستم سے عبارت ہے۔

موجودہ ایران میں شاہ کی خفیہ ایجنسی کے ان مراکز کو عجائب گھر بنا دیا ہے، جہاں ایسے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا جو مذہب کو ریاست کا حصہ سمجھتے تھے، ان کے ناخن اکھاڑے جاتے، بجلی کے مسلسل جھٹکے دیے جاتے، زخم ڈال کر ان پر نمک چھڑکا جاتا۔ سیکولر رضا شاہ پہلوی کے سیکولر اقتدار کے دوران لاکھوں لوگ قتل اور لاپتہ ہوئے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ایک سنیا گھر کو آگ لگا دی، چار سو سے زیادہ لوگ زندہ جل گئے اور الزام ان لوگوں پر لگا دیا جو مذہب کو ریاست کے کاروبار کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ انڈونیشیا میں سہار تو کی سیکولر آمریت قائم ہوئی تو یہ دنیا کی سب سے پر تشدد آمریت تھی جس میں چار لاکھ سے زیادہ انسان قتل کر دیے گئے۔

لاٹینی یا جنوبی امریکا کے کسی بھی حکمران کے عہد حکومت کو اٹھالیں آپ کو ظلم و ستم کی داستانیں ملیں گی۔ صرف چلی کے پنوشے کے مظالم اس قدر ہولناک ہیں کہ قلم لکھتے ہوئے خون آلود ہونے لگتا ہے۔ وہ تو ان سیکولر اقتدار کو جمہوریت کا تڑکا لگا کر الیکشن بھی جیتتا تھا۔ لیکن کیا جمہوریت لوگوں کا خون بہانے، ظلم کرنے یا قتل و غارت سے روک سکتی ہے۔

دنیا کا سب سے ظالم، قتل و غارت کار سیا اور تشدد کا علمبردار شخص ایک جمہوری طور پر منتخب لیڈر بھی تھا اور اقتدار کے حساب سے سیکولر بھی، وہ شخص جرمنی کے عوام کے دلوں پر راج کرنے والا نازی حکمران ہٹلر تھا جو ہر اعتبار سے سیکولر تھا۔ کوئی اس دور کی دنیا کے لوگوں سے پوچھے کہ انھوں نے اس جمہوری طور پر منتخب سیکولر ہٹلر کے ظلم کی کیا قیمت ادا کی ہے۔ اس سیکولر صفت جمہوری طور پر منتخب شخص نے نسلی تعصب کی ایسی بنیاد ڈالی کہ کروڑوں لوگ لقمہء اجل بن گئے۔ کوئی یہودیوں سے جا کر پوچھے کہ انھوں نے سیکولر اور جمہوری ہٹلر کی جمہوریت اور سیکولر ازم کی کیا قیمت ادا کی ہے۔ واشنگٹن میں ایک ہولو کاسٹ میوزیم ہے جس میں ہٹلر کے اس جمہوری اور سیکولر اقتدار کے دوران ہونے والے مظالم کے شواہد رکھے ہوئے ہیں۔

جمہوریت اور سیکولر ازم ایک اور جگہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گزشتہ سڑسٹھ سالوں سے چل رہے ہیں اور یہ ملک بھارت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جوہر لال نہرو، اندرا گاندھی یا راجیو گاندھی جمہوری طور پر منتخب حکمران نہیں تھے اور وہ سیکولر نہیں تھے تو وہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ اس ملک کا آئین بھی سیکولر ہے جو مذہب کو ریاست سے کوسوں دور رکھتا ہے۔ دنیا کا یہ سب سے بڑا جمہوری اور سیکولر ملک دنیا کی سب سے بڑی جھونپڑ پٹی ہے، جہاں غربت کی انتہا علاقائی نہیں بلکہ مذہبی بنیادوں پر ہے۔ اس عظیم سیکولر اور جمہوری ملک میں غربت کے خط سے سب سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی اکثریت مسلمانوں میں سے ہے اور اس کے بعد دوسرا نمبر شودروں کا آتا ہے۔ یہ شودر کسی علاقے کی وجہ سے غریب نہیں کہ وہاں وسائل موجود نہیں ہیں بلکہ یہ اس لیے غریب کا شکار ہیں کہ ہندو مذہب انھیں بدترین حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔

کیا کشمیر میں مظالم کسی ڈکٹیٹر یا مذہبی رہنما نے روارکھے اور ایک لاکھ لوگوں کو شہید کیا۔ یہ سب کے سب سیکولر اور جمہوری حکمران تھے۔ کوئی سکھوں سے جا کے پوچھے کہ انھوں نے اس جمہوریت اور سیکولر ازم کا 1984 میں کیسا مزہ چکھا تھا جب ان کو دلی کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، گلے میں ٹائر

ڈال کر ان ٹائزوں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ سب حکومتی سرپرستی میں ہوا۔ وہ حکومت جو فخر کرتی ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا تسلسل بھی ہے اور سیکولر ازم کا آئینی تصور بھی۔

اس سارے ظلم و ستم اور تشدد کے باوجود ہمارا میڈیا اور دانشور یہ تصور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے سیکولر ازم اور جمہوریت ہی نجات کے دور استے ہیں۔ اسلام پر گفتگو کرنی ہو تو یہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ اسلام کے اعلیٰ و ارفع اصولوں کا ذکر نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ تمہاری تاریخ جنگوں اور لڑائیوں سے بھری ہے، تمہارے حکمران ظالم تھے۔ لیکن وہ یہ منطق سیکولر ازم پر لاگو نہیں کرتے۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ جس قدر ظلم و بربریت سیکولر ڈکٹیٹروں اور سیکولر جمہوری حکمرانوں کے ادوار میں اس دنیا نے دیکھی، تاریخ میں اس سے زیادہ ظلم و ستم اور قتل و غارت کسی اور دور میں نہیں ہوا۔

جنگِ عظیم اول اور دوم کے دوران ایسے حکمران دنیا پر حکومت کرتے تھے جو جمہوری طور پر منتخب بھی تھے اور سیکولر بھی۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکا، سلیجیم، اٹلی، دیگر تمام ممالک سے مذہب کو ریاست سے الگ بھی کر دیا گیا تھا اور حکمران بھی جمہوری طور پر منتخب تھے۔ ان سیکولر جمہوری حکمرانوں نے جنگوں میں اتنے لوگ قتل کیے جن کی تعداد پوری انسانی تاریخ میں قتل ہونے والے افراد سے زیادہ ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیکولر ازم کا اصل چہرہ ہی یہ ہے۔

یہ انسان کی مروجہ اقدار اور روایت کے برعکس ایک ایسا تصور ہے جسے زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جو افراد اپنی روایت اور اقدار کے تحفظ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں انہیں قتل کر دیا جاتا ہے یا ان پر تشدد سے سیکولر ازم نافذ کیا جاتا ہے۔ وہ مصر، عراق یا انڈونیشیا کے مذہب سے لگاؤ رکھنے والے مسلمان ہوں، جرمنی کے یہودی یا بھارت کے مسلمان، سکھ اور عیسائی اور شور سب سیکولر ازم کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔

سیکولر ازم نے ہمیشہ لوگوں کا خون بہایا اور اس کو ایک خوبصورت تصور دیا کہ ہم ان لوگوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ یہ جمہوریت اور سیکولر ازم کے دشمن ہیں، تخریب کار ہیں، دہشت گرد ہیں، گوریلے ہیں، ملک دشمن ہیں، غدار ہیں۔ یہی سیکولر ازم ہے اور یہی اس کا بھیانک چہرہ ہے اور یہ دو سو سال سے دنیا پر حکمران ہے۔

سیکولر ازم نے سب سے زیادہ نقصان عالم اسلام کو پہنچایا، اس لیے کہ سیکولر فکر کے حاملین نے، جس میں کمال اتاترک جیسے لوگ شامل ہیں، خلافتِ اسلامیہ کے سقوط کے سبب بنے، اور عظیم دولت عثمانیہ اسلامیہ کو تقسیم در تقسیم سے دوچار کیا، یہاں تک کہ وہ پچاس حصوں میں تقسیم ہو گئی، اسرائیل کا ناپاک وجود اسلامی ریاستوں کے بیچ عمل میں آیا۔ دنیا میں فحاشی، بدکاری، اور ہر برائی کو پھیلانے کے راہیں ہموار ہو گئیں، اور پوری دنیا کو جمہوریت اور عالمگیریت کے نام پر جہنم کدہ بنا دیا گیا۔

عثمانی سلطنت میں اکثریتی مذہب کے اقتدار کا نظام تھا۔ ترکی میں سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا دور نظم نو سے شروع ہوا جسے نظام جدید یا تنظیمات کا نام دیا گیا۔ اس زمانے میں عثمانی سلطنت یورپ کے ساتھ مسلسل جنگوں میں پے بہ پے شکست سے دوچار تھی۔ اتاترک کی سربراہی میں

جدیدیت کی صورت میں مغرب کے نظام کو اپنالیا گیا۔ خلافت کا خاتمہ کر کے لاطینی رسم الخط اور یورپی لباس اختیار کیا گیا۔ یورپ کے قوانین کا اجرا ہوا۔ اور سیکولرزم کے اعتبار سے مذہبی اداروں میں اصلاحات جاری کی گئیں۔ سیکولرزم کی فرانسسی شکل لائیسزم اپناتے ہوئے اختیار مذہبی افراد اور اداروں کے بجائے عوام یا غیر مذہبی قوتوں کو دیا گیا۔ ترکی سے باہر کے مسلمانوں خصوصاً برصغیر میں خلافت کے خاتمے پر شدید احتجاج ہوئے۔ تاہم اس سے خلافت اور سیکولرزم پر بحث کا آغاز بھی ہوا۔

استنبول جسے برسوں خلافت عثمانیہ کے پایہ تخت ہونے کا اعزاز حاصل رہا ہے، تقریباً پانچ صدیوں تک پورے عالم اسلام پر بلا شرکت غیر حکومت کرتا رہا۔ اس نے یورپ اور مغرب سے اٹھنے والی بہت سی خطرناک آندھیوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور علمی اور فکری دونوں میدانوں میں بہت ساری ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ اسلامی علوم و فنون کے ان گنت نامور فضلاء کے علاوہ فن تعمیر کے زینان جیسے ماہرین نے یہیں رہ کر اپنے جوہر دکھلائے، جن کی تین سو ساٹھ یادگاریں آج بھی ترکی میں موجود ہیں۔ پریس کا پہلا موجد ابراہیم نامی یہیں پیدا ہوا اور اس کی بدولت دنیا پہلی بار مطبوعہ کتابوں سے روشناس ہوئی۔ فضاء میں اڑنے کا سب سے پہلا کامیاب تجربہ استنبول ہی کے ایک باشندے خدافین احمد نامی نے سترھویں صدی کے آغاز میں کیا تھا، اس کے بنائے ہوئے چڑے کے پر آج بھی استنبول کے مشہور برج غلاطہ میں معلق ہیں، جن کے ذریعے اس نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ آٹھ میل (یعنی تقریباً گیارہ ساٹھ گیارہ کلومیٹر کم و بیش) دور تک کا سفر کیا تھا۔

غرضیکہ خلافت عثمانیہ مدتوں سیاسی جاہ و جلال اور علمی و تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز بنی رہی، تا آنکہ انیسویں صدی کے اواخر میں جب وہ نیم جان ہو کر رہ گئی تو اس وقت تازہ دم ولولوں سے معمور مغربی تہذیب اس کے مقابلے میں آکھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ اس وقت جو صنعتی اور فکری طاقت تھی اس سے عہدہ برآ ہونے کے لئے بڑی خود اعتمادی، انتہائی متوازن فکر اور فکری و عملی جرأت درکار تھی، جو اس وقت میسر نہ آسکی، جس کے نتیجے میں ترکی کی قیادت افراط و تفریط کی دو انتہاؤں میں ڈھلک گئی۔ لیکن اس آخری دور میں بھی خلافت عثمانیہ اپنی ہزار کمزوریوں کے باوجود پورے عالم اسلام کے لئے بدستور ایک مرکز کا کام دے رہے اور اس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ایک لڑی میں پروئے رکھا۔ اس نظام میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ضرورت اس بات کی تھی انہیں ختم کر کے اس کی مرکزیت کو باقی رکھا جاتا اور اسے نئی صورت حال سے نمٹنے کے لئے مؤثر طور پر کام میں لایا جاتا، لیکن مغربی تہذیب سے بری طرح شکست کھائے مرعوب ذہنوں نے ان خرابیوں کے ازالے کے بجائے خلافت عثمانیہ پر ہی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ کمال اتاترک نے اسلامی خلافت کو ختم کر کے ملک کو ایک لادینی ریاست کے اندھیرے میں دھکیل دیا اور اس کی ماضی کی شان دار لہلہاتی اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا، اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے درد بھرے لہجے میں کہا:

چاک کردی ”ترک ناداں“ نے خلافت کی قبا

سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ

کمال اتاترک کے سیکولر انقلاب کے بعد اسلامی قانون اور شریعت کو ملک سے بے دخل کر کے وہاں سوسٹرز لینڈ کا کادیوانی، اٹلی کا فوج داری اور جرمنی کا تجارتی قانون نافذ کر دیا گیا۔ دینی تعلیم ممنوع قرار دے دی گئی۔ پردے کو قانون کے خلاف قرار دے دیا گیا۔ درس گاہوں میں مرد و زن کا مخلوط نظام تعلیم شروع کر دیا گیا۔ عربی رسم الخط کے بجائے ترکی زبان کے لئے لاطینی رسم الخط کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ عربی زبان میں اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ ترک قوم کا اسلامی لباس مغربی نیم عریاں لباس میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترکوں کے لئے ہیٹ کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا اور اس غرض کے لئے ایک خون ریز جنگ لڑی گئی، جس میں ترکوں کے سروں پر ہیٹ رکھنے کے لئے نہ جانے کتنے سرتارے گئے۔

کمال اتاترک نے یہ تمام تر تبدیلیاں محض اس خیال سے کی تھیں کہ ترک عوام اپنے ماضی سے کلی طور پر کٹ کر اپنا رشتہ مغربی تہذیب سے جوڑ لیں۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح ترکی ملک معاشی اور سیاسی ترقی کی منزلیں بڑی تیزی سے طے کر سکے گا۔ آج کمال اتاترک کے لائے ہوئے اس سیکولر انقلاب کو تقریباً ایک صدی بیت چکی ہے لیکن ترکی میں آج سے پندرہ برس قبل تک ماسوائے چند وقفوں کے وہی سیکولر ذہن حکمرانی کرتا رہا ہے جو بحیثیت مجموعی کمال اتاترک کا ذہن تھا۔ چنانچہ ترکی کے موجودہ صدر طیب رجب اردگان کے خلاف حالیہ ناکام فوجی بغاوت اسی اتاترک سیکولر ذہنیت کی حامی تھی۔

کمال اتاترک نے ترکی ملک پر یورپی اور مغربی تہذیب کے تمام اثرات کو نافذ کرنے کے لئے تعلیم اور ذرائع ابلاغ سے لے کر جبر و استبداد تک ہر حربہ پورے جوش و خروش سے آزمایا ہے۔ لیکن اگر ترکی معاشرے پر کمال اتاترک کے اس سیکولر انقلاب کے اثرات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت خوب اچھی طرح کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ بڑے بڑے شہروں کی حد تک تو یہ سیکولر انقلاب فحاشی و عریانی کو یورپ کی سطح تک لانے اور لوگوں کا لباس اور رسم الخط بدلنے میں بے شک کامیاب رہا ہے، لیکن جہاں تک ملک کے بنیادی مسائل کا تعلق ہے ان میں کمال اتاترک ذہنیت کی یہ طویل ترین حکمرانی اسے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچا سکی۔ ترکی کے مسلمانوں کی بھاری تعداد فطرتی طور پر اس سے پہلے بھی کمال اتاترک کی اس روش کی ہم نوا نہیں تھی جو اس نے اسلام کے خلاف اختیار کی تھی، لیکن اس کے اس انقلاب کے تقریباً ایک صدی کے نتائج کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب وہاں خاص طور پر احیائے اسلام کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں۔

یاد رہے کہ ایک مرتبہ ایک مقام پر کمال اتاترک نے العیاذ باللہ! قرآن مجید کا نسخہ شیخ الاسلام کے سر پر دے مارا تھا، وہاں اب الحمد للہ! قرآن کریم کی تعلیم کے سینکڑوں ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ جہاں عربی زبان میں اذان دینے پر پابندی لگائی گئی تھی، وہاں اب پورا شہر اذانوں کی آواز سے گونج رہا ہے۔ جہاں خواتین کے لئے پردہ کرنا جرم قرار دیا گیا تھا، وہاں اب خواتین مکمل پردے میں نظر آتی ہیں۔ اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو انشاء اللہ! اسلام پسند مثالی ترکی صدر طیب رجب اردگان ترکی ملک کو بچے کچھے سیکولر ترکی سے نکال کر مکمل اسلامی ترکی کی راہ پر گامزن کر دیں گے اور ترکی کا شمار بھی انشاء اللہ! اسلامی ممالک کی صف اول میں ہونے لگے گا۔

سیکولر ازم کا ایک نقصان جو یورپ کے ساتھ ساتھ مسلمان ممالک میں دن بدن زیادہ ہو رہا ہے وہ رزق کمانے میں حلال و حرام کا فرق ختم کرنا ہے۔ سیکولر نظام میں دین کا عمل دخل نہیں بس دنیا کمانے کی دھن ہے یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کا نظام سود اور حرام طریقوں پر بہت زیادہ مشتمل ہے۔ دراصل یہ ملحدین کے نظام اشتراکیت و کمیونسٹ ازم رائج ہونے کے سبب ہے۔

سیکولر ازم کا معاشی نظام: معیشت کے باب میں الحاد نے دنیا کو دو نظام دیے۔ ان میں سے ایک ایڈم سمٹھ کا سرمایہ دارانہ نظام یا کمیونسٹ ازم اور دوسرا کارل مارکس کی اشتراکیت یا کمیونزم۔ کمیونسٹ ازم دراصل جاگیر دارانہ نظام (Feudalism) ہی کی ایک نئی شکل ہے جو عملی اعتبار سے جاگیر دارانہ نظام سے تھوڑا سا بہتر ہے۔ کمیونسٹ ازم میں مارکیٹ کو مکمل طور پر آزاد چھوڑا جاتا ہے جس میں ہر شخص کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ دولت کے جتنے چاہے انبار لگالے۔ جس شخص کو دولت کمانے کے لامحدود مواقع میسر ہوں وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے گا اور جسے یہ مواقع میسر نہ ہوں وہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سرمایہ دارانہ نظام کا اصرار ہے کہ ہر انسان کو تجارتی و صنعتی سرگرمیوں کے لئے قطعی آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ منافع کے لئے جو طریقہ مناسب سمجھے اختیار کر لے، منافع کے حصول کے لئے مذہبی قوانین کے تحت حلال و حرام کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہئے۔ نیز اس معاشی نظام میں سود، بیمہ، انٹرسٹ وغیرہ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

جاگیر دارانہ نظام کی طرح اس نظام میں بھی سرمایہ دار، غریب کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کا استحصال کرتا ہے۔ غریب اور امیر کی خلیج اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک طرف تو گھگی کے چراغ جلائے جاتے ہیں اور دوسری طرف کھانے کو دال بھی میسر نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو ایک شخص ایک وقت کے کھانے پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے اور دوسری طرف ایک شخص کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ ایک طرف تو علاج کے لئے امریکہ یا یورپ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور دوسری طرف ڈسپین خریدنے کی رقم بھی نہیں ہوتی۔ ایک طرف بچوں کو تعلیم کے لئے ترقی یافتہ ممالک کی یونیورسٹیوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دوسری طرف بچوں کو سرکاری سکول میں تعلیم حاصل دلوانے کے لئے بھی ماں باپ کو فاقے کرنا پڑتے ہیں۔ ایک طرف محض ایک لباس سلوانے پر لاکھوں روپے خرچ کئے جاتے ہیں اور دوسری طرف استعمال شدہ کپڑے خریدنے کے لئے بھی پیٹ کاٹنا پڑتا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کے اس تفاوت کی مکمل ذمہ داری الحاد پر ہی نہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ اس کا پیشرو نظام فیوڈل ازم، جو کہ اس سے بھی زیادہ استحصالی نظام ہے۔ اٹھارہویں صدی کے صنعتی انقلاب کے بعد فیوڈل ازم کی کوکھ سے کمیونسٹ ازم نے جنم لیا جو کہ امیر کے ہاتھوں غریب کے استحصال کا ایک نیا نظام تھا لیکن اس کا استحصالی پہلو فیوڈل ازم کی نسبت کم تھا کیونکہ وہاں تو بہتر مستقبل کی تلاش میں غریب کسی اور جگہ جا بھی نہیں سکتا۔ چونکہ اہل مغرب اور اہل اسلام اپنے دین کی تعلیمات سے خاصے دور ہو چکے تھے، اس لئے یہ نظام اپنے پورے استحصالی رنگ میں پختہ رہا۔

یورپ میں کارل مارکس نے کمیونسٹ ازم کے استحصال کے خلاف ایک عظیم تحریک شروع کی جس میں اس نظام کی معاشی ناہمواریوں پر زبردست تنقید کی گئی۔ مارکس اور ان کے ساتھی فریڈرک اینجلز، جو بہت بڑا ملحد فلسفی تھا، نے پوری تاریخ کی ایک نئی توجیہ (Interpretation) کر ڈالی جس میں اس نے معاش ہی کو انسانی زندگی اور انسانی تاریخ کا محور و مرکز قرار دیا۔ ان کے نزدیک تاریخ کی تمام جنگیں، تمام مذاہب اور تمام سیاسی نظام

معاشیات ہی کی پیداوار تھی۔ انہوں نے خدا، نبوت اور آخرت کے عقائد کا انکار کرتے ہوئے دنیا کو ایک نیا نظام پیش کیا جسے تاریخ میں کمیونزم کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ کمیونزم کا نظام خالصتاً الحادی نظام تھا۔

کمیونسٹ نظام انفرادی ملکیت کی مکمل نفی کرتا ہے۔ اسے اشتراکی نظام بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی کاروبار شخص کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ قومی ملکیت ہوتی ہے اور سبھی افراد حکومت کے ملازم ہوتے ہیں۔ اشتراکیت کی مختلف صورتیں موجودہ دور میں رائج ہیں۔

اس نظام میں تمام ذرائع پیداوار جن میں زراعت، صنعت، کان کنی اور تجارت شامل ہے کو مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے۔ پوری قوم ہر معاملے میں حکومت کے فیصلوں پر عمل کرتی ہے جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے لیڈروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کمیونسٹ جدوجہد پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اسے سب سے پہلے کامیابی روس میں ہوئی جہاں لینن کی قیادت میں 1917ء میں کمیونسٹ انقلاب برپا ہوا اور دنیا کی پہلی کمیونسٹ حکومت قائم ہوئی۔ دوسرا بڑا ملک، جس نے کمیونزم کو قبول کیا، چین تھا۔ باقی ممالک نے کمیونزم کی تبدیل شدہ صورتوں کو اختیار کیا۔

کمیونزم کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ اس میں فرد کے لئے کوئی محرک (Incentive) نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے ادارے کے لئے اپنی خدمات کو اعلیٰ ترین انداز میں پیش کر سکے اور اس کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت کر سکے۔ اس کے برعکس کمیونسٹ ازم میں ہر شخص اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ ترقی دینے اور اس سے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لئے دن رات محنت کرتا ہے اور اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتیں استعمال کرتا ہے۔ کمیونزم کی دوسری بڑی خامی یہ تھی کہ پورے نظام کو جبر کی بنیادوں پر قائم کیا گیا اور شخصی آزادی بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوویت یونین کی معیشت کمزور ہوتی گئی اور بالآخر 1990ء میں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کمیونسٹ ازم ہی کو اپنا ناپڑا۔ دوسری طرف چین کی معیشت کا حال بھی پتلا تھا۔ چین نے اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لئے کمیونزم کو خیر باد کہہ دیا اور تدریجاً اپنی مارکیٹ کو اوپن کر کے کمیونسٹ ازم کو قبول کر لیا۔ چین کی موجودہ ترقی کمیونسٹ ازم ہی کی مرہون منت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کمیونسٹ ازم اور کمیونزم دونوں نظام ہائے معیشت ہی استحصال پر مبنی نظام ہیں۔ ایک میں امیر غریب کا استحصال کرتا ہے اور دوسرے میں حکومت اپنی عوام کا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اہل مغرب نے اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں کو اپنا کر کمیونسٹ ازم کے استحالی نقصانات کو کافی حد تک کم کر لیا ہے، لیکن تیسری دنیا جس کی اخلاقی حالت بہت کمزور ہے وہاں اس کے نقصانات کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

چونکہ یہاں ہم سیکولر ازم و الحاد کی تاریخ و افکار کا مطالعہ کر رہے ہیں اس لئے یہ کہنا مناسب ہو گا کہ پچھلی تین صدیوں میں معیشت کے میدان میں الحاد کو دنیا بھر میں واضح برتری حاصل رہی ہے اور دنیا نے الحاد پر قائم دو نظام ہائے معیشت یعنی کمیونسٹ ازم اور کمیونزم کا تجربہ کیا ہے۔ کمیونزم تو اپنی عمر پوری کر کے تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، اس لئے اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے لیکن کمیونسٹ ازم کے چند اور پہلوؤں کا ایک مختصر جائزہ لینا ضروری ہے جو انسانیت کے لئے ایک خطرہ ہیں۔

کیپیٹل ازم کے نظام کی بنیاد سود پر ہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کے قیام اور بڑے بڑے پراجیکٹس کی تکمیل کے لئے وسیع پیمانے پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سرمایہ دار کے لئے اتنی بڑی رقم کا حصول بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنی رقم موجود بھی ہو تو اسے ایک ہی کاروبار میں لگانے سے کاروباری خطرہ (Business Risk) بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کیونکہ ایک کاروبار اگر ناکام ہو جائے تو پوری کی پوری رقم ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر وہی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف منصوبوں میں لگائی جائے تو ایک منصوبے کی ناکامی سے پوری رقم ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہوتا اور تمام کے تمام منصوبوں کے ڈوبنے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اسے علم مالیات (Finance) کی اصطلاح میں Diversification کہا جاتا ہے۔

ان بڑے بڑے پراجیکٹس کے لئے رقم کی فراہمی کے لئے دنیا نے Financial Intermediaries کا نظام وضع کیا ہے۔ اس درمیانی واسطے کا سب سے بڑا حصہ بینکوں پر مشتمل ہے۔ یہ بینک عوام الناس کی چھوٹی چھوٹی بچت کی رقم کو اکٹھا کرنے کا کام کرتے ہیں جس پر بینک انہیں سود ادا کرتا ہے۔ پوری ملک کے لوگوں کی تھوڑی تھوڑی بچتوں کو ملا کر بہت بڑی تعداد میں فنڈ اکٹھا کر لیا جاتا ہے جو انہی سرمایہ داروں کو کچھ زیادہ شرح سود پر دیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر بینک عوام کو 8% سود کی ادائیگی کر رہا ہے تو سرمایہ دار سے 10% سود وصول کر رہا ہو گا۔ اس 2% میں بینک اپنے انتظامی اخراجات پورے کر کے بہت بڑا منافع بھی کما رہا ہوتا ہے۔

سرمایہ دار عموماً اپنے سرمایے کو ایسے کاروبار میں لگاتے ہیں جو اس سرمایے پر بہت زیادہ منافع دے سکے۔ اگر ہم دنیا بھر کی مختلف کمپنیوں کی سالانہ رپورٹس (Annual Reports) کا جائزہ لیں تو ہمیں اس میں ایسے کاروبار بھی ملیں گے جن میں Return on Capital Employed شرح 50% سالانہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گی۔ اس منافع کا ایک معمولی سا حصہ بطور سود ان غریب لوگوں کے حصے میں بھی آتا ہے جن کا سرمایہ دراصل اس کاروبار میں لگا ہوتا ہے۔

اس کو ایک مثال سے اس طرح سمجھ لیجئے کہ بالفرض ایک سرمایہ دار کسی بینک سے ایک ارب روپے 10% سالانہ شرح سود پر لیتا ہے اور اس سرمائے سے پچاس کروڑ روپے سالانہ نفع کماتا ہے۔ اس میں سے وہ دس کروڑ بینک کو بطور سود ادا کرے گا اور بینک اس میں سے 8% سالانہ کے حساب سے آٹھ کروڑ روپے اپنے کھاتہ داروں (Deposit Holders) کو ادا کرے گا۔ چونکہ یہ کھاتہ دار بہت بڑی تعداد میں ہوں گے جنہوں نے اپنی تھوڑی تھوڑی بچت بینک میں جمع کروائی ہو گی، اس لئے ان میں سے ہر ایک کے حصے میں چند ہزار یا چند سو روپے سے زیادہ نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے سرمایہ دار، عام لوگوں کو چند ہزار روپے پر ٹر خا کر ان کا پیسہ استعمال کرتا ہے اور اسی پیسے سے خود کروڑوں روپے بنالیتا ہے۔

اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جس طرح جاگیر دارانہ نظام میں جاگیر دار یا مہاجن غریبوں کو سود پر رقم دے کر ان کا استحصال کیا کرتا تھا، اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام میں سرمایہ دار غریبوں سے سود پر رقم لے کر ان کا استحصال کرتا ہے۔ عوام الناس بھی تھوڑا سا سود کھا کر جہاں اپنی دنیا و آخرت خراب کرتی ہے وہاں اپنی رقم کاروبار میں نہ لگا کر اس کی ویلیو کم کرتی ہے، وہ لاکھ جس سے کچھ سال پہلے کافی چیزیں خریدی جاسکتی تھیں وہی لاکھ بینک میں پڑا پڑا چند ہزار کے برابر ہو جاتا ہے۔

اس کے علاوہ فیوڈل ازم کے مہاجنی سود کا سلسلہ بھی اس نظام میں پوری طرح جاری ہے جس میں کریڈٹ کارڈز کے ذریعے مائیکرو فنانسنگ Micro-Financing کا سلسلہ جاری ہے۔ اس معاملے میں 36% سالانہ کے حساب سے سود بھی وصول کیا جا رہا ہے۔ اس سود میں سے صرف 8-10% اپنے کھاتہ داروں کو ادا کیا جا رہا ہے۔

سرمایہ دارانہ نظام کی ایک اور پہلو جوئے کا فروغ ہے۔ یہ لعنت فیوڈل ازم میں بھی اسی طرح پائی جاتی تھی۔ دنیا بھر میں جو اکیلے کے بڑے بڑے ادارے قائم کئے جا چکے ہیں۔ سٹاک ایکسچینج، فاریکس کمپنیز اور بڑی بڑی کیپیٹل اور منی مارکیٹس ان کیسینوز کے علاوہ ہیں جہاں بڑی بڑی رقوم کا سٹھ کھیلا جاتا ہے۔ کھربوں روپے سٹے میں برباد کر دیے جاتے ہیں مگر بھوک سے مرنے والے بچوں کا کسی کو خیال نہیں آتا۔ ان کیسینوز میں جوئے کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور بدکاری کو بھی فروغ مل رہا ہے بلکہ دنیا بھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لئے جوئے اور بدکاری کے مراکز بھی قائم کئے جا چکے ہیں۔ سود اور جو ایسی برائیاں ہیں جن کا تعلق الحاد کی اخلاقی بنیادوں سے قائم کیا سکتا ہے۔

فی زمانہ سیکولر ازم کے فتنے

سیکولر فکر رکھنے والوں کی اقسام و انواع: سیکولر ازم سے متاثر افراد کو تین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

اول: ان کا فر اور بے دین لوگوں کی، جو اسلام کا انکار کرے، اگر وہ مسلمان ہو اور ایسی بات کرے تو مرتد شمار ہو گا۔

دوسری قسم: ان منافقوں کی، جو نام کے مسلمان ہو یعنی بظاہر اسلام کو تسلیم کرتے ہوں، مگر دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہوں، ان کا پورا میلان اندر سے اسلام مخالف، بلکہ اسلام دشمن نظریات کی جانب ہوں، اس وقت مسلم معاشرہ میں یہ لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں، چند نشانیوں سے ان کو پہچانا جاسکتا ہے، وہ نشانیاں یہ ہیں:

1- وہ اپنے آپ کو مصلح ملت، مفکر اسلام یا مجدد ٹھہراتے ہوں، حالانکہ اسلام اور اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی

حالت اسلامی تعلیمات اور مطالبات کے بالکل برعکس ہو، یہی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔

2- وہ یہ آواز لگاتے ہوں کہ اسلامی تعلیمات، عصر حاضر میں جاری کرنے کے قابل نہیں، اس لیے کہ (العیاذ باللہ) وہ فرسودہ ہیں، وہ قابل

اعتبار نہیں، لہذا عالمی قانون کو مسلمان تسلیم کر لے، اس لیے کہ (العیاذ باللہ) وہی مسلمانوں کے لیے شریعت اسلامیہ کے مقابل زیادہ نفع بخش اور مفید ہے۔

3- وہ اباحت پسندی کے شکار ہوں، حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے کے درپے ہوں، اور اس کو اپنے گناہ کی سنگینی کا احساس بھی نہ

ہو۔

4- دین پر عمل کرنے والوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں اور دینی شعائر مثلاً، ڈاڑھی، ٹوپی، کرتہ وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہوں اور دیندار کو کم عقل تصور کرتے ہوں۔

5- اس کے فکری رجحان کی کوئی سمت متعین نہ ہو، جدھر کی ہوا ادھر کا رخ، اس کی طبیعت ثنائیہ ہو، مثلاً جب تک روس کو غلبہ تھا کمیونزم کے حامی اور اب امریکہ کو غلبہ حاصل ہے، تو سرمایہ داریت اور جمہوریت کے شیدائی ہوں۔

تیسری قسم: ان مسلمانوں کی ہے، جو سیکولرزم اور جمہوریت، حقوق انسانی، آزادی نسواں، آزادی رائے، دین اور سیاست میں تفریق جیسے اصطلاحات سے متاثر ہوں، جن کو آج کل مغربیت زدہ مسلمان، کہا جاتا ہے، یہ اسلام کو مانتے ضرور ہیں، اس کی حقیقت کے بھی قائل ہیں، مگر دینی علم سے دوری یا کمی کی وجہ ان خوشنما اصطلاحات سے متاثر ہو گئے ہوں۔

سیکولرزم کو عام کرنے کے اسالیب: اسلام دشمن طاقتوں نے خاص طور پر صہیونی، صلیبی اشتراک، جس کو ماسونیت بھی کہا جاسکتا ہے، سیکولرزم کو مسلمانوں میں عام کرنے کے مختلف طریقے اپنائے۔

(۱) الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعہ یہ پروپیگنڈہ کرنا کہ اسلام، یہ دور انحطاط کی کھوج ہے، اور اس کی تعلیمات، روایات قدیمہ کی حامل ہے، (العیاذ باللہ) مادی ترقی کے دور میں قابل عمل نہیں رہا، علمائے اسلام کو جاہل و شدت پسند اور دہشت گرد ثابت کیا جائے۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں، الحمد للہ! کسی بھی زمانہ میں انسان کی حقیقی ترقی، جس کو روحانی ترقی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اس کا حامل اگر ہے تو یہی اسلام، اس لیے کہ انسان کی حقیقی ترقی یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو راضی کر لے، اور دنیا میں اس کا تقرب حاصل کر لے، قرآن کا اعلان ہے ”تم میں سب سے زیادہ مکرم و معزز و برگزیدہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو“ یعنی گناہوں سے اسی طرح لوگوں کو اور مخلوق کو تکلیف دینے سے مکمل اجتناب کرتا ہو، یہ ہے اصل ترقی کا ریزہ۔ تمام تاریخ اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو بڑے بڑے جید علمائے کرام نے ملک و قوم کی ترقی اور دین اسلام کی خوبیوں کو عقلی و نقلی طور پر ثابت کیا ہے اور جابر و ظالم حکمرانوں کے آگے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ علمائے حق نے فقط دہشت گردی کی مذمت ہی نہیں کی بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تردید کی ہے۔

(۲) العیاذ باللہ یہ پروپیگنڈہ کرنا کہ اسلام خون مندی مذہب ہے، یعنی اس کی تاریخ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، اگر تاریخ کا غائرانہ مطالعہ کریں، تو معلوم ہو گا کہ پچھلے سو سال میں جمہوریت اور سیکولرزم کے نام پر دنیا میں جتنا ظلم ہوا اور قتل و غارت گیری ہوئی، اسلام میں، اس کی ایک بھی نظیر نہیں ملتی، ایک سروے کے مطابق ”اوریا مقبول جان“ مشہور صحافی تحریر فرماتے ہیں کہ پچھلے سو سال میں تقریباً سترہ کروڑ انسانوں کو جمہوریت کے بھینٹ چڑھا دیا گیا، اس سے سو لہویں صدی میں ریڈ اینڈینز کو سو ملین کی تعداد میں نئی دنیا کی دریافت کے نام بے قصور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، غرناطہ میں تیس لاکھ مسلمانوں کو صلیبیت کے نام پر قربان کر دیا گیا، فلسطین میں لاکھوں مسلمانوں اور یہودیوں کو عیسائیوں نے بلا جرم قتل کر دیا، برما میں مسلمانوں کو گاجر مولیٰ کی طرح کاٹا گیا، جبکہ اسلامی تاریخ میں مسلمان امراء کی فرارخ دلی، رعایا سے ہمدردی اور انصاف کوئی

پوشیدہ چیز نہیں، نیک مسلمان سلطانوں اور امراء نے تو ظلم کیا ہی نہیں، بلکہ فاسق و فاجروں بھی نے کیا بھی ہوگا، تو وہ اس ظلم کے سویں حصہ کیا، یا ہزارویں حصہ کے برابر بھی نہیں ہے، ہماری تاریخِ خونی اور ظالمانہ نہیں، اگر ظالمانہ تاریخ ہے، تو تاریخ انہی سیکولرزم کی نعرہ دینے والوں کی ہے، مگر اپنا عیب چھپانے کے لیے وہی اپنا قصور مسلمانوں پر تھوپ دیا۔

(۳) قرآن و حدیث کے بارے میں یہ پروپیگنڈہ کرنا کہ وہ ایک خاص جماعت اور نسل کے لیے نازل کیا گیا تھا، یا یہ کہنا کہ قرآن و حدیث کی، العیاذ باللہ کوئی حقیقت نہیں، وہ تو انسان ہی کا مرتب کردہ ہے، جب کہ حقائق اس کا صراحت کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔

(۴) ایمان بالغیب کا انکار کرنا اور اس کا مذاق اڑانا اور یہ کہنا کہ نیچریت اور طبیعت اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ملائکہ، جن، جنت، دوزخ، حساب، برزخ، قدر، معراج، معجزات، انبیاء وغیرہ، یہ سب محض خرافات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حالانکہ قرآن نے پہلے بارے کے پہلے ہی رکوع میں متقی مسلمانوں کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا ”یؤمنون بالغیب“ ترجمہ: وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۵) مسلمان معاشرہ میں موجود اخلاقی قدروں کو ملیا میٹ کرنا اور اباحت پسندی کو فروغ دینا، تعلیمی نصاب میں ایسا مواد سمودینا، جس سے ابناء قوم طفولیت ہی سے ایمان باللہ، ایمان بالقیامت سے محروم رہے، اور جنسیت، مادیت، فیشن پرستی کا دلدادہ ہو جائے، ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ عشق بازی، حیا سوزی، نوجوانوں کی عادت بن جائے، ایسی ایسی فلمیں اور سیریلیں بنائی جائیں، جس میں مار پیٹ، لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، عشق و محبت، بد اخلاقی و بد کرداری کو فروغ حاصل ہو، حالانکہ بد اخلاقی، بد کرداری، عشق بازی، فتنہ فساد سے، تعلیمات اسلامیہ مکمل اجتناب کا درس دیتی ہیں۔

(۶) توحید کے مقابلہ میں روشن خیالی، مزعوم اعتدال پسندی کو جس کو دوسرے لفظوں میں Modernism کہا جاسکتا ہے، ہر طبقہ میں عام کرنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے، جو سراسر اسلامی تعلیمات کے منافی اور معارض ہے۔

(۷) اسلام کے خلاف جاری فکری یلغار کو ثقافت اور تبادلہ ثقافت کا نام دیا جا رہا ہے، تاکہ فکری یلغار کا احساس زندہ نہ ہو، اور مسلمان من و عن مغربی ثقافت کو دلجمعی کے ساتھ قبول کر لے۔

(۸) بلاد لیل و برہان اسلام کو ”دہشت گرد“ اور مسلمانوں بالخصوص بعض تاریخی لیڈر جیسے اورنگ زیب وغیرہ کو متعصب اور ظالم، قاتل و سفاک اور بے رحم ثابت کیا جا رہا ہے، تاکہ لوگ اسلام اور مسلمان سے متنفر رہے، اور اسلام کو فروغ حاصل نہ ہو۔

(۹) شراب، جوا، سود اور محرمات کو خوشنما اور نئے نئے ناموں سے مسلمانوں میں متعارف اور عام کیا جا رہا ہے، تاکہ حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہے، اور مسلمان بے دھڑک اس کی خرید و فروخت اور استعمال میں مشغول ہو جائے۔ جو علمائے دین حرام اشیاء کے متعلق فتاویٰ دیں ان پر اتنی تنقید کی جائے کہ عوام ان کو معاذ اللہ جاہل اور ترقی میں رکاوٹ سمجھیں۔

(۱۰) اسلام اور اس کی تعلیمات مثلاً حدود، تعزیرات وغیرہ اور اسلامی شخصیات، مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، مجاہدین وغیرہ سے استہزاء اور ان کی زندگیوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے مشکوک کرنا وغیرہ۔ اسلامی سزاؤں میں عورت کو مظلومہ ظاہر کرنا اور زنا کے مسئلہ میں یہ مشہور کرنا کہ جب عورت کی عزت لوٹی جا رہی ہو اس وقت عورت چار گواہ کہاں سے لائے۔

(۱۱) مسلم علماء کو اپنے قول و فعل میں نظر انداز کرنا ان کے متعلق نصاب سے مواد ختم کرنا اور عصر حاضر کے علماء سے عوام کو مختلف طریقوں سے بدظن کرنا اور دین کی باتوں کو معاذ اللہ دقیہ نوس ثابت کرنا اور مغربی باطل نظریات کو خوب عام کرنا، اور ہر ممکن یہ کوشش کرنا کہ ان باطل نظریات کے حاملین کو علم و تحقیق کے باب میں بلند ترین مقام دینا اور یہ کہنا کہ یہی لوگ حقیقت میں دنیائے علم و تحقیق کے درخشندہ ستارے ہیں اور انہوں نے دنیا پر بڑا احسان کیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیوں کہ علم و تحقیق کے نام پر انہوں نے دنیا کو گمراہ کیا، مثلاً ڈارون، فرائیڈ، مارگو لیٹھ، کارل مارکس، آدم اسمیٹھ، دورکایم، جان پول، وغیرہ یہ ائمہ ضلال تو ہو سکتے ہیں، مگر محسن نہیں ہو سکتے۔

سیکولر ازم کی روک تھام کے لیے اقدام

اس وقت سیکولر ازم کس قدر تیزی سے اور کن لوگوں کی قوت سے بڑھ رہی ہے آئیں ذرا اس کا جائز لیں:

مغربی طاقتوں کا زور، یہودیوں کی فری میسن تحریک، بے دین این جی اوز، سیاستدانوں، میڈیا، قانونی و دیگر بڑے اداروں کے عہدیداران کا عمل ہم سب کے سامنے عیاں ہے کہ کس طرح یہ لوگ اسلامی احکام و علمائے کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور نام نہاد ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ سب لوگ مل کر ملک و قوم کو لوٹتے ہیں اور الٹا ازم دین و علماء پر لگاتے ہیں۔ آج مغربی طاقتوں کی اشاروں پر نصاب میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور کبھی غیر اسلامی قوانین کو لاگو کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت اور ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے۔ این جی اوز بر ملا طور پر دینداروں اور شرعی سزاؤں پر تنقید کرتی ہیں، میڈیا عوام کو بے حیائی کی طرف راغب کر کے دین سے دور کر رہا ہے اور سیاستدان اور بڑے سرکاری عہدے کے لوگ شرعی احکام میں ٹانگ اڑاتے ہوئے کبھی زبانی طلاق کو کالعدم کہتے ہیں، کبھی عدت میں نکاح کو جائز ثابت کیا جاتا ہے، کبھی قادیانیوں کو بھائی کہہ کر ان کو مسلمان ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام الناس کی نظروں میں علماء و شرعی احکام کی حیثیت دن بدن کم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔

ان سب طاقتوں کے خلاف جب دینی طاقت کا جائزہ لیں تو کئی گمراہ فرقے ہیں جو کفار کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور ان کی ایڈ سے پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، باطل عقائد کو ترویج کر کے مسلمانوں میں تفرقہ پھیلاتے ہیں، عوام الناس میں جنتی گروہ اور باطل فرقوں کی تمیز کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اہل سنت ہی میں جعلی پیروں کا فتنہ ہے، پھر بعض جاہل مقررین اور تشدد مولویوں کا کردار بھی عیاں ہے جو بغیر

سوچے سمجھے ذرا اسی بات پر اور عام فروعی مسئلہ پر کفر و گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں۔ اب قارئین غور کریں کہ سیکولر بڑی قوتوں کے برخلاف ہم مسلمانوں کے پاس کونسی فوج ہے جو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کر سکے؟؟؟ ان حالات میں عوام اور علمائے اہل سنت کی درج ذیل ذمہ داریاں ہیں:

حالات و واقعات سے آگاہ ہونا: علمائے کرام کو چاہیے کہ حالات و واقعات اور جدید فتنوں سے ہر وقت باخبر رہیں۔ ہر جدید فتنہ کا بروقت رد کیا جائے۔ ایسے مسائل عوام الناس میں نہ بیان کیے جائیں جن کی اتنی حاجت نہ ہو یا عوام کے ذہن عقلی طور پر قبول نہ کریں اور سیکولر ان مسائل کا مذاق اڑائیں۔ یونہی بد مذہب مولویوں کے کلپ عام کر کے عوام الناس کو تمام علماء سے بد ظن نہیں کرنا چاہیے۔

بلاوجہ کی تنقید سے اعراض: جو چیز کسی بھی سنی تحریک یا عالم میں پائی جاتی ہے جب وہ شرعاً جائز ہے تو خواجہ اعتراض نہ کیا جائے۔ ہر فردو جماعت پر تنقید کرنا اہل علم حضرات کی شایان شان بھی نہیں اور اپنے مجاہدین کو علمائے اہل سنت سے بد ظن کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو اس صاحب سے بد ظن ہو گا وہ ہو سکتا ہے تمام اہل سنت کے علماء سے ہی بد ظن ہو جائے۔ ہر مسئلہ کی خود تحقیق کی جائے شریعتی عناصر کی سنی سنائی بات پر رد عمل نہ کیا جائے کہ بعد میں خبر غلط ثابت ہو لیکن دین و سنت کا نقصان ہو چکا ہو۔

کڑھن سے آگے کچھ عمل: بعض حضرات کی عادت ہے جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو بہت کڑھتے ہیں لیکن بجائے عمل کرنے کے سارے کرنے کے کام باتوں باتوں میں دوسرے علماء یا تحریکوں کے سپرد کر دیتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے، بلکہ عملی حال یہ ہے ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پر دیندار شخصیات سے بد ظن ہو جاتے ہیں۔ یہ روش عرصہ دراز سے دیکھنے کو ملتی ہے جس کا نقصان آج ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ کچھ فی سبیل اللہ دین کا کام کرنے کا ذہن ہونا چاہیے۔

علمی عقلی اور خوبصورت نکات کے ساتھ بیان کرنا: بیانات ایسے ہوں جو علمی ہونے کے ساتھ اچھے نکات پر مبنی ہوں جیسے سود کیوں حرام ہے؟ بے پردگی کے نقصانات وغیرہ۔ ہر موقع پر بد مذہبوں کا رد یا فروعی اختلاف پر گفتگو مناسب نہیں ہوتی۔

مدارس کا قیام: مدارس میں اچھا نصاب رائج کر کے، صاف ستھرا اور اچھا ماحول دے کر اچھی تنخواہوں کے ساتھ علماء کرام رکھے جائیں تاکہ عوام الناس میں رغبت پیدا ہو۔

ائمہ مساجد کی اچھی تنخواہیں: ائمہ مساجد پڑھے لکھے رکھے جائیں اور ان کی اچھی تنخواہ ہو۔

عوام بالخصوص صاحب ثروت و منصب لوگوں سے رابطہ: عام طور پر بہت زیادہ غریب طبقہ اور بہت زیادہ امیر طبقہ دین سے دور ہوتا ہے اور سیکولر لوگ اور بے دین میڈیا کے قریب ہوتا ہے۔ ان کو دین اور دینداروں سے دور کر کے سیکولر ازم عام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ان لوگوں تک دین کا احسن طریقے سے پیغام پہنچے گا تو امید ہے کہ یہ سیکولر ازم کے فروغ کا سبب نہیں بنیں گے۔

عوام الناس کو بھی علمائے کرام اگر شفقت دیں تو یہ بد مذہبوں اور سیکولر لوگوں بالخصوص میڈیا کے پروپیگنڈہ سے بچ سکتی ہے۔ عوام اور فاسق لوگوں سے قطع تعلقی کرنا یا ان کو جھاڑنا فی زمانہ بہت خطرناک ہے۔

اجتماعات: پوش ایریاز اور اداروں میں دینی اجتماعات قائم کیے جائیں جہاں اچھے تجربہ کار علماء کے بیانات ہوں جو سیرت نبی و صحابہ کرام کو احسن طریقے سے پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں ان ہستیوں کی محبت و عظمت پیدا کریں۔

اہل سنت کا مضبوط سیاسی پلیٹ فارم: علمائے اہل سنت و عوام اہل سنت کو سیاست میں حصہ لے کر اسمبلی میں جانا چاہیے تاکہ دین و سنیت کو فائدہ ہو۔ سیاست کو ہم نے بے دینوں کے ہاتھ دے کر بہت نقصان اٹھایا ہے۔

میڈیا میں علماء اہل سنت کا عمل: خالص اسلامی چینلز کا اضافہ اور مشہور میڈیا چینل پر علماء اہل سنت کا اختلافی گفتگو کے علاوہ اسلام کی خصوصیات و محاسن، شرعی احکام کو اچھے طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ میڈیا میں جو دین اور علماء کے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کی روک تھام ہو۔ الغرض میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہر محاذ پر احسن طریقے سے کام ہونا چاہیے۔

دینی اہم موضوعات پر صحیح رہنمائی: فی زمانہ جو فرقہ واریت، تقلید، پیری مریدی، جہاد وغیرہ کے جو موضوعات زیر بحث ہیں اور عوام الناس اس حوالے سے الجھن کا شکار ہے کہ ان کو یہ تمیز نہیں رہی کہ حق کیا۔ اس کے لیے ہر چھوٹی بڑی سطح پر صحیح رہنمائی کا سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ تقلید کا تعارف اور اس کی اہمیت و ضرورت، حق جماعت اہل سنت کا صحابہ کرام و تابعین سے ثبوت، صحیح پیری مریدی کیا اس سے آگاہی اور جہاد کا تعارف اور اس کی شرائط بیان ہوں۔